

تَعْلِيمُ الْعَقَائِدِ

یعنی
صحیح عقیدے

تصدیق

حضرت شیخ الحدیث عارف باللہ مفتی سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ

مولفہ
مفتی طاہر محمود
استاذ اشرف العالموں کو رنگی

ناشر
عارف پبلسٹرز

تَعْلِيمُ الْعَقَائِدِ

یعنی
صحیح عقیدے

تصدیق

حضرت شیخ الحدیث عارف باللہ مفتی سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ

مؤلفہ
مفتی طاہر محمود
استاذ اشرف العالموں کو رنگی

ناشر
عابدی پبلسٹرز

نام کتاب: تعلیم العقائد یعنی صحیح عقیدت

تصدیق: حضرت شیخ الحدیث مفتی سبحان محمود صاحب رحمہ اللہ

مؤلف: مفتی طاہر محمود

تعداد صفحات: ۱۱۵

تاریخ اشاعت: اول ۲۹ ذی الحجہ ۱۴۱۹ھ

مطبع: شیخ پرسنگ پریس

قیمت:

ناشر: عارفی پبلشرز مدرسہ اشرف العلوم بیت المکرم

کورنگی کراچی فون: 5042981&5043194

5043189

نمبرہ و فصلی علی رسولہ (الکریم) (اسابعر)

صحیح عقیدہ وہ بنیاد اور اساس ہے کہ جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے، عقیدے کی درستگی کے بغیر اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اس پر بہت زور دیا، بلکہ یہاں تک فرمادیا، **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ**، کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں ہونے والی کوتاہی تو جس کی چاہیں گے معاف فرمادیں گے لیکن شرک (یعنی عقیدے کی کوتاہی) کی معافی کی اس کے یہاں گنجائش نہیں، اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ عقیدے کی اصلاح اور درستگی اسلام میں کس قدر مہتمم بالشان ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں باطل قوتوں نے مسلمانوں کے عقائد پر شب خون مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علمائے اسلام کو کہ انہوں نے بھی ہر دور میں ان باطل قوتوں کے مکرو فریب کا پردہ چاک کر کے عقائد کو ہر قسم کی ملاوٹ اور شک و شبہ سے پاک و صاف رکھنے کا کام عمن و خوبی انجام دیا، چنانچہ اس موضوع پر ہر

انتساب

اس ولی کامل، نابغہ روزگار اور ہر دلعزیز شخصیت کے نام جو اولاد کے لئے مریبان والد، دانا مرئی اور کامل شیخ تھے، جن کی نظر کیسیا اثر نے راہ حیات کے نہ جانے کتنے تھکے ماندے مسافروں کو "حیاة طیبة" کی راہ تاباں و درخشندہ دکھائی، جن کی دعاوں کا گھنا اور ٹھنڈا سایہ نہ جانے کتنے اداروں اور افراد کو مصائب مشکلات اور فتنوں کی یلغار سے حفاظت فراہم کرتا تھا، جن کی مثالی تربیت اور بابرکت سایہ عاطفت کی خوشگوار ٹھنڈک میں احقر نے اپنی زندگی کے چونتیس سال نہایت بے فکری اور چین و سکون سے گزارے، اب ان کے جانے کے بعد معمولی مسائل بھی کڑی دھوپ میں کوہ گراں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کو مقام قرب سے نوازے اور اس کتاب کو (جو درحقیقت ان کا ہی فیض ہے) ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں انکے فیض سے محروم نہ فرمائے

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ آمِينَ

دور میں کتابیں لکھی جاتی رہیں۔

اسی لئے دینی مدارس (جن کے دیگر مقاصد کے علاوہ ایک اہم مقصد مسلمانوں کے عقائد و افکار کی درستگی اور حفاظت بھی ہے) میں بھی عقائد کی تعلیم کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور نہایت شرح و بسط اور تحقیق کے ساتھ عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن عموماً مدارس میں اس موضوع کو فوقانی درجات میں پڑھایا جاتا ہے، نچلے درجات میں عقیدے پر کوئی خاص قابل ذکر کتاب عموماً نہیں پڑھائی جاتی، مدرسہ اشرف العلوم بیت المکرم کورنگی کا جب آغاز ہوا تو وہاں کے نصاب تعلیم میں اس موضوع کو تحتانی درجات میں بھی اہتمام کے ساتھ پڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن ابتدائی درجات کے معیار کی کوئی کتاب اس وقت دستیاب نہ تھی چنانچہ فرزند عزیز مولوی طاہر محمود سلمہ اللہ تعالیٰ و زاہد علماء و عملانے مرحلہ متوسط کے طلبہ کو ایمان مفصل کی تشریح اس انداز میں پڑھائی کہ جس کے ذیل میں ضروری عقائد کی مناسب تشریح اور فاسد عقائد کے نشاندہی کے ساتھ انکی تردید بھی ہلکے پھلکے انداز میں آئی۔

موصوف نے جب اس کو شائع کرنے کا ارادہ کیا تو اس تشریح کو طلبہ کی سمولت کے لئے سوالا جوابا کر دیا اور پھر اسکے حاشیہ میں دلائل بھی لکھ دیئے، پھر یہ تحریر مستند اور متبحر علمائے کرام کے سامنے بغرض اصلاح پیش کر کے ان سے بھی توثیق کر لی، چنانچہ ان کی اس کاوش کو جناب مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب مد ظلم (نائب مفتی دارالعلوم کراچی) جناب مولانا مفتی محمد عبداللہ برمی صاحب مد ظلم اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب دامت برکاتہم نے بالاستیعاب مطالعہ فرما کر اصلاح فرمائی ہے۔

ان حضرات کی اصلاح کے بعد اب یہ کتاب اس قابل ہے کہ شائع کی جائے اور مدارس میں داخل نصاب کر لی جائے، اللہ تعالیٰ عزیز کی اس محنت کو قبول فرمائیں اور ان کے لئے ذخیرہ آخرت بنائیں آمین۔

بسم اللہ

۱۲/۱۹

جامعہ دارالعلوم کراچی

تعلیمات اسلام کے حصہ عقائد کو شامل کرنے سے آگے نہ بڑھ سکی
(بعد میں یہ حصہ بھی اس مرحلہ کے طلبہ کی استعداد سے بلند ہونے کی
وجہ سے نصاب سے خارج کر دیا گیا)

پھر جب احقر پر مدرسہ اشرف العلوم میں تدریس کی ذمہ
داریوں کے ساتھ انتظام کا بوجھ لاد آیا تو احقر نے پہلی فرصت میں اس
موضوع کو مرحلہ وار بتدریج شامل نصاب کرنے کی ہمت کی، اور جو
بولے وہ دوازہ کھولے، کے بمصداق تمام اساتذہ نے یہ درس بھی
احقر ہی کے سپرد کر دیا، اس موقع پر احقر نے مرحلہ متوسطہ کے طلبہ
کی استعداد کے مطابق ایمان مفصل کی تشریح اس انداز میں کی کہ اس
مرحلہ کی استعداد کے مطابق ضمناً موجودہ زمانے کے چند باطل فرقوں کا
ایک اجمالی جائزہ اور ان کے عقائد باطلہ پر مختصر سا نقد بھی ان کے سامنے
آجائے۔

ناکارہ کا یہ درس بعض طلبہ نے قلب بند کر لیا تھا، اور اسی کی فوٹو
کاپی بعد کے سالوں میں شامل نصاب رہی، پھر بعض احباب کا اصرار ہوا
کہ مرحلہ ثانویۃ عامۃ کے لئے بھی کچھ کام ہونا چاہئے، چنانچہ اس کے

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

أما بعد

عقائد کی اہمیت مسلمہ ہے، مگر ہمارے یہاں اس کو جس
اہتمام سے پڑھانے کی ضرورت ہے عموماً وہ اہتمام نظر نہیں آتا،
چنانچہ ابتدائی درجات میں تو اس موضوع پر کوئی قابل ذکر کتاب داخل
نصاب ہی نہیں تاہم درجہ سادسہ میں جا کر شرح عقائد خاص اس
موضوع کی کتاب ہے، مگر اس کو پڑھنے کے بعد بھی طالب علم کو فی زمانہ
پائے جانے والے باطل فرقوں اور ان کے نظریات بارے میں کوئی
خاص آگاہی حاصل نہیں ہوتی۔

جس زمانے میں احقر اپنے مادر علمی دارالعلوم کراچی میں مدرس
تھا اس وقت احقر نے اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں اس کمی کا تذکرہ کیا
تھا اور درخواست کی تھی کہ اس موضوع کو مرحلہ متوسطہ سے مرحلہ
عالیہ تک مسلسل شامل نصاب رہنا چاہئے، مگر مشکل یہ تھی کہ اس
موضوع کا ایسا نصاب دستیاب نہ تھا کہ جس کو تسلسل کے ساتھ شامل
نصاب کر لیا جائے، چنانچہ یہ تجویز مرحلہ متوسطہ سال سوم میں

تسہیل فرمائی۔

پھر احقر نے اس کتاب کے مسودے کو اپنے سفر عمرہ ۱۳۱۹ھ میں، حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب مدظلہم کی خدمت میں بھی بغرض اصلاح پیش کیا، حضرت مفتی صاحب مدظلہم نے ایک ہی نشست میں پوری کتاب کا بلاستیعاب کا مطالعہ فرما کر اصلاحات فرمائیں اور اپنے نہایت گراں قدر قیمتی مشوروں سے نوازا (فجزاہم اللہ تعالیٰ أحسن الجزاء)

ان ثقہ اور مشاہیر علمائے کرام کی نظر سے گزرنے کے بعد اب یہ کاوش الحمد للہ اس قابل ہے کہ اس کو شائع کر دیا جائے۔

اسی کتاب کا دوسرا حصہ جو مرحلہ ثانویہ خاصہ کی استعداد کے حامل طلبہ کی رعایت سے مرتب کیا گیا ہے، آخری مراحل میں ہے، اس حصہ میں تاریخ اختلاف امت اور اسباب اختلاف کے علاوہ زمانہ قدیم و حاضر کے فرقوں کا تعارف، ان کے عقائد اور ان پر رد کے علاوہ اہل سنت و الجماعت کا تعارف، ان کی علامات اور ان کے عقائد کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔

لئے اسی حصہ کے دلائل زبانی یاد کرانے کی تجویز ہوئی تو احقر نے احباب کے اصرار پر اس کے دلائل بھی جمع کر دیئے اور طلبہ کی سمولت کے لئے ایمان مفصل کی تشریح کو سولاً جو اباً مرتب کر دیا۔

لیکن چونکہ یہ ایک بہت نازک موضوع ہے جس پر قلم اٹھانے کے لئے علمی مہارت، وسیع تدریسی تجربہ کے علاوہ اسلاف کے دینی رخ اور مسلکی مزاج سے آشنائی بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ احقر ان تمام فضائل سے تمہی داماں ہے، اس لئے اپنی اس کاوش کو شائع کرانے کا کوئی ارادہ حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا، کئی سال بعد اب بعض دوستوں کی ہمت افزائی پر اس شرط کے ساتھ اس کو طبع کرانے کا ارادہ ہوا کہ یہ تحریر حرفاً حرفاً اپنے اساتذہ کرام کی نظر سے گزار کر اطمینان کر لیا جائے، چنانچہ استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں اس کو پیش کرنے کی جسارت کی اور ان حضرات نے کمال شفقت سے کام لیتے ہوئے اس کتاب کا مکمل مطالعہ فرمایا اور احقر کو اپنے مفید مشوروں سے نوازنے کے علاوہ اس تحریر میں موجود ثقیل الفاظ کی جا بجا

صفحہ	نمبرت مضامین	صفحہ	نمبرت مضامین
۲	صفحات کمالیہ	۱۲	مقدمہ
۱۳	حبیب	۱۲	عقیدہ کی تعریف
۳۶	دوسرا باب	۱۲	عقیدہ کی اہمیت
۳۷	فرشتے کون ہیں؟	۱۳	دین اور مذہب
۳۷	فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں	۱۴	ہمارا مذہب
۳۵	فرشتوں کی تعداد	۱۴	دین اسلام کیا ہے؟
۳۶	فرشتوں کی ذمہ داریاں	۱۵	ایمان اور اسلام
۳۸	تیسرا باب	۱۵	ایمان مفصل
۴۱	آسمانی کتب پر ایمان کا مطلب	۱۵	کفر کی تعریف
۴۱	نبیاء پر نازل کردہ کتابیں	۱۸	شرک کی تعریف
۴۲	دیگر آسمانی کتب میں تحریف و تواتر	۲۰	پہلا باب
۴۳	آسمانی کتب کی ضرورت	۲۰	خدا تعالیٰ پر ایمان
۴۵	قرآن کریم کے بارے میں عقیدہ	۲۱	اللہ تعالیٰ کی حقیقت سمجھنے سے بالاتر ہے
۴۷	نزدول قرآن کی ترتیب	۲۲	وجود باری پر عقلی دلیل
۴۸	قرآن کی موجودہ ترتیب	۲۲	وحدانیت
۵۰	چوتھا باب	۲۳	وحدانیت کی دلیل
		۲۵	وحدانیت کی عقلی دلیل

تعلیم العقائد

عرض مرتب

قارئین کرام کو اگر اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے تو وہ یقیناً میری جہالت کا شاخسانہ ہوگی، ازراہ کرم ایسی صورت میں ناچیز کو مطلع فرمادیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر کو شش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور اس کو احقر اور احقر کے والد صاحب کیلئے زادِ آخرت بنائے۔ آمین

بروز ہفتہ ۲۹ ذی الحجہ ۱۴۱۹ھ کو اس کتاب کا مسودہ طباعت کیلئے جاری ہوا تھا اسی دن حضرت شیخ الحدیث مفتی سبحان محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (جن کو ہمیشہ نطفہم لکھا کرتے تھے آج ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہوئے جگر زخمی ہو رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور قلم میں یہ لکھنے کا یارا نہیں ہو رہا) ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے پردہ فرما ہوئے (انا اللہ وانا الیہ راجعون) حضرت نے اپنی وفات سے دو دن قبل ہی اس کتاب کے لئے تصدیق و تقریب پر دستخط فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔

ابو امام رضا اھروہ محمود
۳ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

خادم طلبہ اشرف العلوم بیت المکرم کورنگی
سیکٹر 50A کراچی
فون: 5042981-312357-5043194
E.Mail: alashraf@cyber.net.pk

صفحہ	فہرست مضامین	صفحہ	فہرست مضامین
۱۰۷	حشر و نشر	۸۳	قیامت کی حقیقت
۱۰۷	حشر کے کچھ حالات	۸۴	قیامت کب آئے گی؟
۱۱۰	پل صراط	۸۵	علامات قیامت
۱۱۰	گناہگار مسلمانوں کا انجام	۸۵	علامات صغریٰ
۱۱۲	تقدیر کا بیان	۸۶	علامات کبریٰ
۱۱۲	تقدیر کی حقیقت	۹۰	ظہور مہدی
		۹۱	حضرت مہدی کا علیہ
		۹۲	ظہور و جال
		۹۲	دجال کا علیہ
		۹۵	نزول عیسیٰ (علیہ السلام)
		۹۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علیہ
		۹۸	یا جوج ماجوج
		۹۹	یا جوج ماجوج کون ہیں؟
		۱۰۲	ذکر و خان (دحوال)
		۱۰۳	سورج کا مغرب سے نکلنا
		۱۰۳	واپس الارض
		۱۰۵	یمن کی آگ
		۱۰۶	مؤمنین کی موت

صفحہ	فہرست مضامین	صفحہ	فہرست مضامین
۶۵	حضور ﷺ کو عالم الغیب کتنا	۵۰	نبوت اور رسالت کا مطلب
۶۸	معجزے	۵۱	نبی اور رسول میں فرق
۶۸	معجزے کی تعریف	۵۲	انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ
۶۹	انبیاء کرام کے معجزے	۵۳	عصمت انبیاء
۷۱	حضور ﷺ کے معجزے	۵۵	انبیاء کی تعداد
۷۱	شق القمر	۵۶	خاتم النبیین (ﷺ)
۷۲	قرآن کریم	۵۶	حضور ﷺ کے بارے میں عقیدہ
۷۲	پانی کا معجزہ	۵۶	افضلیت
۷۳	ورخت کا حکم ماننا	۵۷	مہوم رسالت
۷۵	پہاڑوں کا سلام کرنا	۵۷	ختم نبوت
۷۶	پانچو ال باب	۵۸	رحمت و ہدایت
۷۶	قیامت کا بیان	۵۸	وجوب اطاعت
۷۶	موت کی حقیقت	۵۸	محبت
۷۶	موت کے بارے میں عقیدہ	۵۹	دروہ کی کثرت
۷۸	برزخ کی تعریف	۵۹	بغیرت
۷۹	برزخ کے حالات	۶۱	معراج
۸۲	منکر نکیر کون ہیں؟	۶۲	حیات النبی
		۶۳	علم الاولین و الآخِرین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

أَمَّا بَعْدُ!

مُقَدِّمَاتُ

سوال: عقیدہ کے کتے ہیں؟

جواب: عقیدہ کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، دین و مذہب سے متعلق وہ نظریات جو دل میں جمائے جائیں عقیدہ کہلاتے ہیں^(۱)

سوال: عقیدہ کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: عقیدہ انسان کے کردار و اعمال کی تعمیر میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اخلاق و اعمال کی بنیاد ارادے

(۱) قال الزبیدی فی تاج العروس: (عقد الحبل والبيع والعهد) عقدان عقد (شدہ) والذی صرح به أئمة الإشتقاق أن أصل العقد نقیض الحل۔۔۔۔۔ (إلی قولہ)۔۔۔۔۔ ثم استعمل فی التسمیة والإعتقاد الحازم (فصل العین من باب الدال ص ۴۲۶ ج ۲)

پر ہے، اور ارادے کا محرک دل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ دل انہی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے جو دل میں راسخ اور جمی ہوئی ہوں اس لئے انسان کے اعمال و اخلاق کی درستگی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے دل میں صحیح عقائد ہوں،
۱۱۰
۱۱۰ لہذا عقیدے کی اصلاح نہایت اہمیت رکھتی ہے^(۲)

سوال: دین یا مذہب کسے کہتے ہیں؟

جواب: دین یا مذہب لغت میں اس طریقہ اور قوانین کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے چاہے وہ درست ہو یا غلط،^(۳)

اور دینی زبان میں اللہ تعالیٰ کا مقرر فرمودہ وہ طریقہ جس کو بندہ اپنے اختیار سے اپنا کر حقیقی کامیابی اور فلاح پاجائے^(۴)

(۲) لقولہ ﷺ: "إلا إن فی الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وھی القلب" (بخاری، رقم الحدیث ۱: ۵۲، کتاب الإیمان)

(۳) قال تعالیٰ: "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" (الکافرون: ۳)

(۴) قال ملا جیون فی نور الأنوار: "الدین هو وضع الیہی سائق لذوی العقول

باختیارهم المحمود الی الخیر بالذات و هو یشمل العقائد والأعمال" (ص ۶)

سوال : ہمارا مذہب کیا ہے؟

جواب : ہمارا دین اور مذہب اسلام ہے، یہی وہ مذہب ہے جو انسان کی نجات اور کامیابی کا ضامن ہے، دین اسلام جیسی جامعیت، کمال اور جاذبیت کسی دوسرے مذہب میں نہیں، یہی مذہب ساری دنیا کے انسانوں کے لئے تاقیامت کامیابی کا ضامن ہے۔

اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب مقبول نہیں ہے، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اپنایا وہ دنیا و آخرت کے خسارہ اور ناکامی کے علاوہ اللہ کے غیظ و غضب کا مستحق ہوا۔^(۵)

سوال : دین اسلام کیا ہے؟

(۵) قال تعالیٰ: "فمن یرد اللہ أن یریدہ یشرح صدرہ للإسلام" (الأأنعام: ۱۲۵)
وقال تعالیٰ: "إن الدین عند اللہ الإسلام" (العمران: ۱۹) وقال تعالیٰ: "ورحبت لکم الإسلام دیناً" (المائدہ: ۳) وقال تعالیٰ: "ومن یتبع غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منه"
(آل عمران: ۸۵)

جواب : دین اسلام عقیدے اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان کا دل میں یقین جمانا اور زبان سے اظہار اور اقرار تباعداری کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کا نام مذہب اسلام ہے۔^(۶)

سوال : ایمان اور اسلام کسے کہتے ہیں؟

جواب : اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کا اسی طرح دل میں یقین کرنا اور تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے اور اس یقین و تصدیق کا زبان سے اظہار و اقرار کرنا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا اسلام کہلاتا ہے، لہذا ایمان وہ بنیاد ہے جس پر مذہب اسلام کی عمارت قائم ہے، اس کے بغیر نہ ف زبان سے اقرار کرنا منافقت

(۶) قال تعالیٰ: "إن الدین أمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس بآلہ"
(الکہف: ۱-۷) وکما ورد فی حدیث حبرئیل بو قال الإمام الأعظم فی الفقہ الأكبر:
"الدین اسم واقع علی الإیمان و الإسلام و الشرا ع کلہا" (الفقہ الأكبر)

ہے، چنانچہ ایمان کے بغیر (اللہ تعالیٰ کے یہاں) نہ اسلام معتبر ہے اور نہ عمل صالح کا کوئی اعتبار ہے (۷)

سوال: مسلمان ہونے کیلئے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟

جواب: ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور پاک ﷺ

کی خدمت میں حاضر ہو کر چند سوالات امت کی تعلیم کے

لئے کئے تھے جس میں ایک سوال ایمان کے بارے میں تھا

اور آپ ﷺ نے اس کے جواب میں کلمہ شہادت کے

علاوہ، وہ بنیادی باتیں بیان فرمائی تھیں جن کی تصدیق کرنا

ایمان کیلئے ضروری ہے

اور وہ باتیں ایمان مفصل میں جمع کر دی گئی ہیں، ایمان مفصل

(۷) کما ورد فی حدیث جبرئیل فی جواب: "ما الإسلام"، قال الملاء علی قاری فی

شرح الفقہ الاکبر: "قال الإمام الأعظم فی کتابہ الوصیة، الإیمان إقرار باللسان و

تصدیق بالحنان، و الإقرار وحده لا یکون إیماناً لأنه لو کان إیماناً لکان المنافقون

کلهم مؤمنون، قال اللہ تعالیٰ فی حق المنافقین: "و اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون"

... إلی قوله... "ثم التصدیق وکن حسن لعینه لا یحتمل السقوط فی حال من

الأحوال" الخ (شرح الفقہ الاکبر - ۵۷، طبع مصر)

یہ ہے:

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ

وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ

تَعَالَى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ (۸)

ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اسکے فرشتوں پر اور اسکی کتابوں پر

اور اسکے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر کہ ہر

خیر و شر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد

دوبارہ زندہ ہونے پر۔

سوال: کفر کیا ہے؟

جواب: جن باتوں کی تصدیق اور اقرار ایمان کے لئے ضروری ہے ان

میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا کفر ہے، جیسے کوئی اللہ

تعالیٰ کا انکار کر دے، یا کسی پیغمبر کو نہ مانے، تو ایسا شخص کافر

(۸) کما ورد فی حدیث جبرئیل، (الجامع الصحیح البخاری، رقم ۵۰ / مسلم،

رقم ۱۰۰۸ / أبو داؤد، رقم ۴۶۹۵ / نسائی، رقم ۴۹۹ / ابن ماجہ، رقم ۶۳، ۶۴)

عبادت میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے قبر کو یا پیر کو عبادت کے طور پر سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی پیر کے نام کی منت مانگنا یا کسی نبی ولی کے نام کا روزہ رکھنا وغیرہ۔ (۱۲)



(۱۲) قال تعالى: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا" (التوبة: ۳۱) و قال تعالى: "فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ" (العنكبوت: ۲۵) و قال: "وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَ بَقُولُوا هُوَ اللَّهُ مُشْعَاوُنَا عِنْدَ اللَّهِ" (يونس: ۱۸)

ہو جائے گا۔ ۱۰

سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا عبادت میں کسی دوسرے کو شریک بنانا شرک کہلاتا ہے، جیسے بندوبست سے خدا مانتے ہیں، عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں^(۱۰) اور صفات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کما لیه کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا، جیسے کسی پیر فقیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اولاد دے سکتا ہے یا بارش برسا سکتا ہے^(۱۱) اسی طرح

(۹) لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" (الزمر: ۶۳) و لقوله تعالى: "مَا جَادِلْ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا" الآية (المؤمن: ۴)
(۱۰) لقوله تعالى: "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ" (الإخلاص) و لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: "يَا قَوْمِ إِنِّي بَرئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجْهِي لِلدَّيْنِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (العنكبوت: ۲۵)
(۱۱) لقوله تعالى: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (الشورى: ۱۱)

پہلا باب

اللہ تعالیٰ پر ایمان

سوال: اللہ جل شانہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہئے؟

جواب: اللہ تعالیٰ اس ذات کا نام ہے جو یکتا ہے اور تمام اچھی اچھی

صفات اور خوبیاں اس میں ہیں، ذات، صفات اور عبادت

میں اس کا کوئی شریک نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے

گا، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا،

جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا فرماتا ہے اور جس کو

چاہتا ہے اپنے اختیار سے فنا فرماتا ہے، دنیا کی تمام باتیں اس

کے اختیار و ارادے سے ہوتی ہیں، وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز

کو دیکھتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا جاننے والا ہے، وہی سب کو

رزق دیتا ہے، وہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو

چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضہ اور

اختیار میں ہے۔^(۱۳)

(۱۳) قال تعالیٰ: "وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم" (سورہ: ۱۶۳)

سوال: کیا انسان اللہ جل شانہ کی ذات کو سمجھ سکتا ہے؟

جواب: اللہ جل شانہ کی حقیقت کا علم انسان کی طاقت اور اس کے بس

سے باہر ہے بڑے سے بڑا عقلمند اور صاحب علم بھی اللہ

تعالیٰ کی حقیقت اور ذات تک نہیں پہنچ سکتا،^(۱۴) ہم اللہ

تعالیٰ کو اس کی صفات کمالیہ سے پہچانتے ہیں۔^(۱۵)

سوال: اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ

وقال: "کل شیء حالک إلا وجهہ" (القصص: ۸۸)، وقال: "وہی فی وحہ ربک ذو الحلال

والاکرام" (الرحمن: ۲۷)، وقال: "خالق کل شیء" (أنعام: ۱۰۲)، وقال: "فقال لما یرید

(ہو: ۱۰۷ / البروج: ۱۶) وقال: "ألا لہ الخلق والأمر" (الأعراف: ۵۴) وقال: "لیس

کشفہ شیء وهو السمع البصیر" (الشوری: ۱۱)، وقال: "وعدہ مفاتیح الغیب لا یعلمها إلا

هو" (أنعام: ۵۹) وقال: "تعر من تشاء ونذل من تشاء بیدک الخیر بک علی کل شیء

قدیر" (ان عمران: ۲۶) وقال: "الذی یدأ الخلق ثم یرعده وهو أخیون علیہ" (الروم: ۲۷)

(۱۴) قال تعالیٰ: "ولا یحیطون بہ علما" (ملہ: ۱۱۰)

(۱۵) قال فی شرح العقیدۃ الطحاویة: "لا یبلغہ الأوهام ولا تدرکہ الأفہام"..... (إلی

قولہ)..... "واللہ تعالیٰ لا یعلم کیف ہو إلا هو سبحانہ وتعالیٰ وإنما نعرفہ سبحانہ

بصفاتہ وهو أمہ أحد، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو أحد" (شرح العقیدۃ

الطحاویة: ۱۲۰)

تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، لہذا وجود باری تعالیٰ پر کوئی عقلی دلیل بھی بیان کر دیں۔

جواب: ان لوگوں کا مذکورہ عقیدہ ظاہر ہے کہ کسی بھی عقلمند آدمی کے لئے قابل توجہ نہیں ہو سکتا، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ معمولی سا کام بھی بغیر کرنے والے کے نہیں ہو سکتا، تو اتنا بڑا کارخانہ عالم، جس میں دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی، بارش بھی ہوتی ہے اور خشک سالی بھی، غرض ایک نظام ہے جو بے داغ ہونے کے علاوہ نہایت منظم اور شاندار ہے، خود بخود کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟

لازمی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ اسے کسی نے بنایا ہے اور بنانے کے بعد منظم طور پر اس کو چلا رہا ہے، یہی عالم کو بنانے اور چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

عرب کے ایک دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا:

”البعرة تدل على البعير الاثر يدل على

المسير فالسماء ذات الأبراج و .

الأرض ذات الفجاج كيف لا يدلان

على اللطيف الخبير“

یعنی: اونٹ کی مینگی دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے

کوئی اونٹ گیا ہے، اور نشان قدم دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ

یہاں سے کوئی گزرنے والا گذرا ہے، تو یہ بڑے بڑے چاند

سورج اور ستاروں والا آسمان، یہ کشادہ اور وسیع راستوں

والی زمین، ضرور اللہ کے موجود ہونے کی خبر دیتی ہے۔

دیکھئے یہ عام سادہ دیہاتی کوئی عالم فاضل اور محقق نہیں،

مگر یہ بھی معمولی غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا جان

لیتا ہے، تو وہ لوگ جو اس قدر واضح نشانیوں کے باوجود اللہ

تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوں، ان کے بارے میں یہی کہا

جاسکتا ہے کہ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔

ان کے لئے کوئی عقلی دلیل بیان کر دیں۔

جواب : ایک سے زیادہ معبود ہونا عقل و فطرت دونوں کے خلاف ہے ، ذرا سوچئے تو کہ اس دنیا میں ایک چھوٹے سے ملک پر بھی بیک وقت دو آدمیوں کی حکمرانی یا بادشاہت نہیں چل سکتی ، تو اتنے بڑے عالم میں خداوند قدوس کے ساتھ اس کی خدائی میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے ؟ کیونکہ دو خدا ہونے کی صورت میں یا تو دونوں میں ہمیشہ اتفاق رہتا یا اختلاف ہوتا ، ہمیشہ اتفاق ہونے کی صورت میں دوسرے خدا کی حاجت نہیں ، کیونکہ جب ایک کا فعل و ارادہ کافی ہو گیا تو دوسرے کی کیا ضرورت ؟ جب دوسرے کی ضرورت نہیں تو دوسرا زند اور معطل ہو گیا اور معطل ہونا شان خداوندی کے خلاف ہے ، لہذا معلوم ہو گیا کہ دو خدا نہیں ہو سکتے۔

اور اگر دونوں میں اختلاف ہو ، مثلاً ایک نے زید کو موت

دینے کا ارادہ کیا ، اور دوسرے نے اسی وقت میں اس کو

وحدانیت

سوال : اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں ؟

جواب : خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جاننا اپنی وحدانیت بیان فرمائی ہے ، (اور ہمارے لئے یہی دلیل کافی ہے) ، چنانچہ

فرمایا : قُلْ كَفَىٰ لِي اللَّهُ وَاحِدًا^(۱۶)

یعنی : کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے

اور فرمایا :

وَاللَّهُ لَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ^(۱۷)

یعنی : اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے ، جو رحمان اور رحیم ہے

سوال : بعض لوگ اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں مگر ایک سے زیادہ معبودوں کا عقیدہ رکھتے ہیں ، جیسے ہندو اور عیسائی وغیرہ ،

(۱۶) الإحلاص : ۱۰

(۱۷) البقرة : ۱۶۳

زندگی دینے کا ارادہ کیا، تو ضروری ہے کہ اس ایک وقت میں یا تو زید کو موت آئے یا زندگی ملے، دونوں باتیں بیک وقت نہیں ہو سکیں گی، لہذا اگر زید کو موت نے آیا تو دوسرا خدا جس نے زید کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا وہ عاجز ہو گیا اور عاجز ہونا خدا کی شان کے خلاف ہے، اور اگر اس وقت میں زید کو زندگی ملی تو دوسرا خدا جس نے زید کی موت کا فیصلہ کیا تھا، وہ عاجز ہو گیا اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔

لہذا ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ ایک ہی ہے دو نہیں ہو سکتے اور خدا کی میں شرکت محال ہے۔

مشرکین کے لئے یہ مذکورہ عقلی دلیل اللہ جل شانہ نے بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، ارشاد ہے :

”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“^(۱۸)

یعنی : ”اگر آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا بہت سے معبود

ہوتے تو نظام عالم بگڑ جاتا، حالانکہ نظام عالم نہیں بگڑا، جس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی ہیں کوئی شریک نہیں۔

صفات کمالیہ

سوال : اللہ تعالیٰ صفات کمالیہ کون کونسی ہیں ؟

جواب : اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ بہت سی ہیں ان میں سے چند صفات کمالیہ (یعنی اچھی اچھی صفات) یہ ہیں :

(۱) وحدت : یعنی خداوند قدوس اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے نہ اسکا ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں۔^(۱۹)

(۲) قِدَمٌ : یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کی ابتدا

(۱۹) لقولہ تعالیٰ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الإخلاص: ۱) و لقولہ تعالیٰ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(الشورى: ۱۱)

چیزوں کا عالم یعنی جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز باہر نہیں، ہر ذرہ تک اس کے علم میں ہے، ہر چیز کو اس کے موجود ہونے سے پہلے اور فنا ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، انسان کے دل میں آنے والے خیالات اور اندھیری رات میں چلنے والی بیڑی کے پاؤں کی حرکت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، علم غیب (یعنی پوشیدہ باتوں کا علم) صرف خدا تعالیٰ ہی کی خاص صفت ہے۔^(۲۲)

(۶) ارادہ: ارادہ کے معنی اپنے اختیار سے کام کرنا، اللہ تعالیٰ

(۲۳) قال تعالیٰ: یعلم ما بین یدیمہ وما خلفہم (البقرۃ: ۲۵۵ و طہ: ۱۱۰) وقال: إله علم بذات الصدور (الملک: ۱۳) وقال وعند مقابح الغیب لا یعلمہا إلا هو و یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقہ إلا یعلمہا ولا حبة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین (الانعام: ۵۹)

ہے نہ اس کی انتہا ہے۔^(۲۰)

(۳) حیات: یعنی زندگی، خدا تعالیٰ زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا، زندگی کی صفت اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ ثابت ہے۔^(۲۱)

(۴) قدرت: قدرت کے معنی طاقت کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت اور طاقت حاصل ہے، وہ تمام عالم کو پیدا کرنے، پھر قائم رکھنے، پھر فنا کر دینے، پھر دوبارہ موجود کر دینے پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔^(۲۲)

(۵) علم: علم کے معنی جاننے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام

(۲۰) لقولہ تعالیٰ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن (الحمدید: ۳) وقال النبی ﷺ: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والحدیث (رواه مسلم: ۲۷۱۳ ج: ۹، کنز العمال: ۳۸۲۰)

(۲۱) قال تعالیٰ: اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم (البقرۃ: ۲۵۵) وقال تعالیٰ: وعنت الوجوه للحی القيوم (طہ: ۱۱)

(۲۲) قال تعالیٰ: واللہ علی کل شیء قدير (البقرۃ: ۲۸۲)

محتاجگی سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیفیت ہمیں
نہیں معلوم۔^(۲۳)

تنبیہ: یہ بات خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفاتوں سے
پاک ہے، اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی،
اس کی کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔^(۲۴)
قرآن کریم اور حدیث شریف میں جو اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی
صفات کا ذکر ہے مثلاً دیکھنا، سنانا، بولنا یا ہاتھ یا قدم وغیرہ،

(۲۶) و کلم اللہ موسیٰ تکلیما (النساء: ۱۶۵)، وقال: سلام قولاً من مد رب رحیم

(یسین: ۵۸) وقال الإمام الأعظم فی الفقه الأكبر: ونحن ننکلم بالآلات و الحروف
واللہ ننکلم بلا آلة ولا حرف (ص: ۲)

(۲۷) قال تعالیٰ لیس کشفہ شیء (شوری: ۱۱) وقال: سبحان رب العزّة عما
یصفون (الصفّ: ۱۸۰) وقال الإمام أبو حنیفة: لا یشہ شیءاً من خلقه ولا یشبہہ

شیء من خلقه === إلی قوله === وصفاته کلیاً خلاف صفات المخلوقین یعلم لا
کعلمنا، یقدر لا کقدرتنا، ویری لا کبرؤتنا (شرح الفقه الأكبر لملا علی قاری ص)

جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا فرماتا ہے اور
جس کو چاہتا ہے اپنے ارادہ سے فنا فرمادیتا ہے تمام عالم
میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اختیار و ارادہ سے ہوتا ہے وہ
کسی بات میں مجبور و الاچار نہیں ہے۔^(۲۴)

(۷) سمع و ابصر: سمع کے معنی سنانا اور ابصر کے معنی دیکھنا ہے، اللہ
تعالیٰ بغیر کان و آنکھ کے سنتا اور دیکھتا ہے، اس کے
لئے اندھیرا، اجالا، دور نزدیک سب دیکھنے اور
سننے میں برابر ہے۔^(۲۵)

(۸) کلام: کلام کے معنی بولنا، یعنی خدا تعالیٰ بغیر زبان کے بولنے
والا ہے، اسے کلام میں زبان کی حاجت نہیں،
کیونکہ محتاج ہونا مخلوق کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ

(۲۵) قال تعالیٰ: لعل لسا یرید (الروح: ۱۶) وقال: ورنک یخلق ما یشاء، و یختار
الآیة (الفصص: ۶۸)

(۲۶) قال تعالیٰ: و هو السميع العظیم (الشوری: ۱۱)

تو ایسی باتوں پر ایمان لانے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کی اصل حقیقت اور مراد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہماری عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، ہم ان کی اصل حقیقت سمجھے بغیر ابمالات ان پر ایمان لاتے ہیں۔^(۲۸)

(۹) تخلیق: تخلیق کے معنی پیدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کو پیدا فرمائیے والا ہے، مخلوقات کو پیدا فرمانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔^(۲۹)

(۱۰) احياء و اموات: احياء کے معنی زندہ کرنے اور اموات کے معنی

(۳۸) قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به (آل عمران: ۷) وقال الإمام الشعراي: أعلم أن من الأدب عدم تاويل آيات الصفات ووجوب الإيمان بها مع عدم التكيف (البواقيت والحواهر ج: ۳ ص: ۱۰۵) وقال في الفقه الأكبر: وله بدو وجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه وأبد والنفس فهو له حقيقة بلا كيف ولا يقال أن بده قدره أو نعمة لأن فيه إبطال الصفة (ص: ۱۸۵)

(۲۹) قال تعالى: ذلكم الله ربكم جل جلاله كل شيء (مؤمن: ۶۲) وقال: وحلق كل شيء (الأنعام: ۱۰۱) وقال: إن الله غني عن العالمين (آل عمران: ۹۷)

موت دینے کے ہیں، یعنی زندگی دینا اور مار ڈالنا اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار و ارادے سے ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی زندگی یا موت دینے والا نہیں۔^(۳۰)

(۱۱) رزاق: اس کے معنی روزی دینے والی ذات، یعنی روزی

دینے اور اسمیں کمی بیشی کر نیوالی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کے قبضہ و اختیار میں روزی دینا یا کمی بیشی کرنا، نہیں ہے۔^(۳۱)



(۳۰) قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون (الحاثية: ۲۶) وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (المملك: ۲)

(۳۱) قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين (الذُرِّيَّت: ۵۸)

دوسرا باب

ملائکہ پر ایمان

سوال : فرشتے کون ہیں؟

جواب : فرشتے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہیں (۳۲) جو نور سے پیدا کئے

گئے ہیں، (۳۳) یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس

کام میں لگا دیئے گئے ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں، (۳۴) یہ نہ

کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں (۳۵) نہ سوتے ہیں، یہ نہ مرد ہیں اور

(۳۲) لقرآنہ تعالیٰ : "وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مكرمون" (انبیاء: ۲۶)

(۳۳) عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "خلقت الملائكة من نور" (مسلم: ۲۹۹۶ و

أحمد: ۶ ص ۱۶۸)

(۳۴) قال تعالیٰ : لا یعضون اللہ ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون (تحریم: ۶)

(۳۵) قال تعالیٰ : "هل أتاك حديث خبيث إبراهيم المكرميين" (فی قوله) ---

قال ألا تأكلون" (الذريات: ۲۴-۲۷)

نہ عورت (۳۶)۔

ایک مومن کے لئے جس طرح بن دیکھے خدا تعالیٰ پر ایمان

لانا ضروری ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ نورانی

مخلوق فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ (۳۷)

سوال : کیا فرشتے انسانی شکل یا دوسری شکل میں آسکتے ہیں؟

جواب : جی ہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی

شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں ظاہر ہو جائیں، چنانچہ

قرآن کریم میں، حضرت ابراہیم، حضرت مریم اور

حضرت لوط علیہم السلام کے قصوں میں مذکور ہے

(۳۶) قال تعالیٰ : "فاسئلتهم أكرام التات ولهم الدين أم خلقنا الملائكة إناثا وهم

شاهدون ألا إنهم من إنكهم ليقولون" (الصافات: ۱۵۹-۱۵۶)

(۳۷) قال تعالیٰ : "ومن يكثر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد حبل حبلًا لا يعبأ"

(النساء: ۱۳۶) وقال تعالیٰ : "كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية"

(البقرة: ۲۸۵)

کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ (۳۸)

سوال: فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟

جواب: فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم (۳۹)

سوال: کیا فرشتوں کے نام بھی ہیں؟

جواب: جی ہاں! فرشتوں کے نام بھی ہیں، چند نام اللہ تعالیٰ نے

انسانوں کو بھی بتائے ہیں، اور وہ یہ ہیں:

۱:- حضرت جبرائیل (علیہ السلام) (۴۰) ۲:- حضرت

میکائیل (علیہ السلام) (۴۱) ۳:- حضرت اسرافیل

(۳۸) لقولہ تعالیٰ: "تمثل لہا بشرًا مویا" (مریم: ۱۷) وقال تعالیٰ: "هل أتاک

حدیث ضیف ابراہیم المکرمین إذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون"

(الذریت: ۲۴-۲۵) وقال تعالیٰ: "ولما جائت رسلنا لوطًا سنّ بہم وضاقت بہم

ذرعا" (ہود: ۷۷) وعن عمر بن الخطاب فی حدیث جبرئیل: "إذ طلع علینا رجل

شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر" (رواہ الشیخان)

(۳۹) قال تعالیٰ: "وما یعلم عند ربک الاہو" (المدثر: ۳۱)

(۴۰ و ۴۱) قال تعالیٰ: "من کان عدوًا لله وملائکته وجبرئیل ومیکل فإن الله عدو

للکافرین" (البقرة: ۹۸)

(علیہ السلام) (۴۲) ۴:- حضرت عزرائیل (علیہ السلام) (۴۳)

۵:- حضرت مالک (علیہ السلام) (۴۴) ۶:- حضرت رضوان

(علیہ السلام) (۴۵) ۷:- حضرت منکر نکیر (علیہما السلام) (۴۶)

۸:- ہاروت وماروت (علیہما السلام) (۴۷)

(۴۲) "اللّٰهُمَّ ربّ جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل فاطر السموات والأرض عالم العیب

والشهادة أنت تحکم بین عبادک الحدیث" (رواہ أحمد: ۶: ۱۵۶)

(۴۳) أخرج ابن أبی الدنيا أبو الشیخ فی العظمة عن أنثعت بن أسلم قال: "سأل

إبراهیم علیہ السلام ملکت السموات واسمہ عزرائیل وله عینان فی وجہہ" (الحیات

للسیوطی ص: ۲۲، رقم: ۱۲۳)

(۴۴) قال تعالیٰ: "ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک" (الزحرف: ۷۷)

(۴۵) عن ابن عباس قال: "لما عبر المشرکون رسول الله ﷺ بالفاقة" ==

(الی قولہ) == "إذ عاد جبرئیل الی حلہ فقال یا محمد ابشر هذا رضوان خازن الجنة"

الحدیث (الحیات ص: ۶۷)

(۴۶) عن أبی هریرة قال: "قال رسول الله ﷺ إذا أقر الميت أتاه ملکان أسودان

أرزقان یقال لأحدهما منکر وللآخر نکیر" الحدیث (الترمذی: کتاب الخنازیر باب

عذاب القبر، ص: ۱۲۷، ج: ۱)

(۴۷) قال تعالیٰ: "وما أنزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت" (البقرة: ۱۰۲)

اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور سبزہ اگانے پر مامور ہیں، (۵۲)

اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قیامت کے دن صورت

پھونکلیں گے (۵۳)، جبکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں (۵۴) اسی طرح جنت اور جہنم

کی دربانی پر بھی فرشتے مقرر ہیں (۵۵) اور اللہ تعالیٰ نے انسان

(۵۲) حدیث جابر بن عبد اللہ المذکور

(۵۳) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: إسماعيل صاحب الصور - الحديث

(الدر المنثور، ۱: ۹۴ و مستند أحمد، ۳: ۱۰۰)

(۵۴) قال تعالى: "فل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم" (آل عمران: ۱۱)

وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: "وما من أهل بيت إلا وملك الموت يتعاهدكم في كل يوم مرتين فمن وجدته فداققتى أحله قبض روحه"

الحديث (كثير العمال: ۴۲۱، ۳۳)

(۵۵) قال تعالى: "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين" (الزمر: ۷۳) وقال:

"وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة" (المدثر: ۳۱)

سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کام لگا رکھے ہیں؟

جواب: جی ہاں! اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت سے کام سپرد کئے ہیں، (۳۸) مثلاً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو (جو تمام

فرشتوں کے سردار ہیں) (۳۹) اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام

کے پاس وحی لے جانے کی ذمہ داری سپرد فرمائی ہے، (۵۰)

اور اللہ کے حکم سے بندوں کی ضروریات پوری کرنا بھی انہی

کے سپرد ہے (۵۱)

(۳۸) قال تعالى: "فالمقسمات أمرا" (الذاریات: ۵)

(۳۹) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ألا أخبركم بأفضل الملائكة

جبرئيل" (كثير العمال ۱۲: ۳۵۳، ۴۳ و الدر المنثور ۱: ۹۲)

(۵۰) قال تعالى: "اللَّهُ بصطفي من الملائكة رسلا" (الحج: ۷۵) وقال: "إنه لقول

رسول كريم" (الحاقة: ۴۰ و التکویر: ۱۹) قال الإمام السبوطي تحت هذه الآية:

"وصف الله تعالى جبرئيل بستة من صفات الكمال أحدها كونه رسولا من عند الله"

(المحاذنك: ۲۲۱)

(۵۱) عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: "إن جبرئيل موكل بحاجات العباد"

الحديث (الدر المنثور، ۱: ۹۲ و بيهقي في شعب الإيمان)

تیسرا باب

آسمانی کتابیں

سوال : آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب : جس طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور فرشتوں پر

ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ان تمام کتابوں پر بھی جو اللہ

تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں، یہ ایمان لانا ضروری

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یہ کتابیں بھی سچی ہیں، چنانچہ

اگر کوئی شخص ان آسمانی کتابوں پر ایمان میں سے کسی ایک پر

ایمان نہ لائے گا تو کافر ہو جائے گا (۵۹)

سوال : کون کونسی کتابیں کن کن پیغمبروں پر اتاری گئیں؟

جواب : حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر ہمارے نبی پاک ﷺ

تک اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں،

(۵۹) قال تعالیٰ: "قولوا آمنا بالله وما أنزل إلینا وما أنزل إلیٰ إبراہیم وإسماعیل

وإسحاق" (البقرة: ۳۶) وقال: "والذین یؤمنون بما أنزل إلیک وما أنزل من قبلک"

(البقرة: ۴)

کی حفاظت پر بھی کچھ فرشتوں کو مامور فرمایا ہے، جو حفظہ

کھلاتے ہیں (۵۶) اور بعض فرشتے انسان کے ناممائے اعمال

لکھنے پر مقرر ہیں جن کو کراماتین کہا جاتا ہے (۵۷) پھر کچھ

فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں (۵۸)



(۵۶) قال تعالیٰ: "وإن علیکم لحافظین" (الانفطار: ۱۰) وقال: "ویرسل علیکم

حفظہ" (أنعام: ۶۱)

(۵۷) وقال تعالیٰ: "وإن علیکم لحافظین کراما ما کان تبین" (الانفطار: ۱۰-۱۱)

(۵۸) قال تعالیٰ: "الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم"

(المؤمن: ۷) وقال تعالیٰ: "ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیۃ" (الحاقة: ۱۷)



تعلیمات کے ساتھ موجود ہیں؟

جواب: چونکہ قرآن کریم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس لئے یہ کتابیں تحریف سے محفوظ نہ رہ سکیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان میں اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق تحریف کر ڈالی، اس لئے ہمارا عقیدہ ان کتب کے بارے میں یہ ہونا چاہئے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی تھیں، بعد کے زمانے میں ان میں تحریف ہو گئی، اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد ان کتب کی پیروی جائز نہیں۔ (۶۲)

سوال: آسمانی کتابوں کی ضرورت پر روشنی ڈالیں۔

جواب: دنیا میں یہ قاعدہ اور طریقہ ہے کہ کسی بھی حکومت

(۶۲) قال تعالیٰ: "بحرفون الکلم عن مواضعہ" (مائدہ: ۱۳) و قال تعالیٰ: "فاحکم

بینہم بما أنزل اللہ ولا تتبع أھوائہم عما جاءک من الحق" (المائدہ: ۴۸)

جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر،

زیور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ

السلام پر اور قرآن کریم حضرت محمد ﷺ پر، (۶۰)

اس کے علاوہ اور بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں انبیاء پر

آہاری کیں جنہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔

مثلاً اس صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، بچاس صحیفے

حضرت شیث علیہا السلام پر، تیس صحیفے حضرت اور نیس علیہ

السلام پر اور دس یا تیس صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام

پر۔ (۶۱)

سوال: کیا یہ کتابیں (تورات، زیور، انجیل وغیرہ) تاحال اپنی اصلی

(۶۰) قال تعالیٰ: "إنا أنزلنا التورۃ فیہا ہدیٰ ونور" (المائدہ: ۴۴) وقال: "وأنزلنا داؤد

زیور" (النساء: ۱۶۳) وقال: "وأنزلنا الإنجیل فیہ ہدیٰ ونور" (المائدہ: ۴۶) وقال:

"وأنزلنا إلیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدہ من الکتاب" (المائدہ: ۴۸)

(۶۱) قال تعالیٰ: "إن ہذا لیس الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسىٰ"

(الأعلى: ۱۸=۱۹)

سوال: قرآن کریم کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟
 جواب: قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے (۶۴) جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد ﷺ پر حضرت جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے (۶۵) تنزیل فرمایا، قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ

(۶۴) وقال تعالیٰ: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه" (التوبة: ۶) وقال تعالیٰ: "يريدون أن يبدلوا كلام الله" (الفتح: ۱۵)
 (۶۵) قال تعالیٰ: "نزل به الروح الأمين" (شعراء: ۱۹۳) وقال تعالیٰ: "إنه ليقول رسول كريم" (تکویر: ۱۹)
 (۶۶) قال تعالیٰ: "و قال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن حملة واحدة كذلك لسيب فؤادك" (فرقان: ۳۲) وقال تعالیٰ: "و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزيلا" (اسراء: ۱۰۶) وقال ابن كثير في سورة القدر: "قال ابن عباس و غيره أنزل الله القرآن حملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفضلا بحسب الوقاع في ثلاث و عشرين سنة على رسول الله ﷺ" (تفسير ابن كثير ۲: ۵۲۹)

کا انتظام چلانے کے لئے کچھ دستور اور قانون بنائے جاتے ہیں، جیسے جرائم پر سزا کا قانون، فوجواری اور عائلی قانون، تجارت اور معیشت کے قانون۔
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو بادشاہوں کا بادشاہ اور احکم الحاکمین ہے اور تمام عالم ان کی مخلوق و مملوک ہے، اپنے بندوں کے لئے ایسے قوانین اور ضابطے بھیجنے کی ضرورت تھی، جن کی پیروی کر کے بندے اپنے خالق و مالک کی اطاعت و فرمانبرداری بخالاسکیں، چنانچہ یہ قوانین الہی حضرات انبیائے کرام کے واسطے سے، وقتاً فوقتاً امتوں پر، بصورت کتاب یا بصورت صحیفے اتارے جاتے رہے جن پر سب کو عمل کرنا واجب تھا (۶۳)
 یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی ﷺ پر آخری کتاب قرآن کریم اتاری گئی۔

(۶۳) قال تعالیٰ: "و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (مائدہ: ۴۴)

جس کی نظیر قیامت تک کوئی نہیں بنا سکتا (۶۷) قرآن کریم نے پہلی تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کر دیئے ہیں، قرآن کریم قیامت تک کے انسانوں کے لئے راہ ہدایت، دستور العمل اور شاہدہ حیات ہے، (۶۸)

قرآن کریم میں بہت سے احکام اجمالیاً تفصیلاً بیان کئے گئے ہیں پھر ان کی تشریح رسول اللہ ﷺ نے اپنے قول و عمل (حدیث و سنت) فرمائی ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق احکام بتائے ہیں، ان سب کو ماننا اور ان سب پر عمل کرنا لازم ہے (۶۹)

(۶۷) قال تعالیٰ: "قل لمن اجتمعت الإنس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون و لیرکان بعضهم لبعض ظہیراً" (یس: اسرائیل: ۸۸)

(۶۸) قال تعالیٰ: "وما هو الا ذکر للعالمین" (فلم: ۵۲) و قال تعالیٰ: "لیعزما انزل الیکم من ربکم" (اعراف: ۳)

(۶۹) قال تعالیٰ: "و انزلنا الیك الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلیم بشکروں" (نحل: ۵۵) و قال تعالیٰ: "هو الذی بعث فی الامم رسولا یتلو علیہم آیاتہ و یرکبہم و یعلیہم الکتاب و الحکمۃ و ان کامر امن قبل لقی ضلال مبین" (الجمعة: ۲) و قال

قرآن کریم میں قیامت تک تحریف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے (۷۰)، یہی وجہ

ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم اسی طرح موجود ہے جس طرح حضور پاک ﷺ پر نازل ہوا تھا اس کے زبر زریہ پیش تک میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہو گی۔

سوال: آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم تیس برس میں اترا، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل کیا گیا ہے۔

جواب: یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا کا پورا، ایک وقت، رمضان المبارک کی ایک رات، شب قدر میں نازل ہوا اسی کو قرآن کریم میں فرمایا: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ**

تعالیٰ، و ما ینتطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی (النجم: ۳)

(۷۰) قال تعالیٰ: "إنا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون" (الحجر: ۹)

پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے دنیا میں حضرت محمد ﷺ پر تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت تینیس سال میں نازل ہوا (۱۱)

سوال : کیا قرآن کریم اسی ترتیب سے ہمارے نبی پاک ﷺ پر نازل ہوا جس ترتیب سے آج موجود ہے؟

جواب : قرآن کریم کے اترنے کی ترتیب جدا تھی اور لکھنے کی ترتیب جدا، اترنے کی ترتیب وہ نہیں جو آج ہے، اور قرآن کریم

کی موجودہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو حضرت جبرئیل علیہ

السلام ہمارے نبی پاک ﷺ کو بتا دیتے کہ اس آیت یا سورت کو فلاں آیت یا سورت کے بعد لکھ دیں، اور

آنحضرت ﷺ اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو

(۷۱) قال تعالیٰ: "وقرآنا فرقانا لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا"

(اسراء: ۱۰۶)

لکھوا دیتے، (۷۲) اس طرح قرآن کریم کی موجودہ ترتیب سامنے آئی، اور یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود ہے۔



(۷۲) عن عثمان بن ابی العاص قال: "کنت عند رسول اللہ ﷺ حالما یاد شخص

بعثہ الی قولہ) فقال انانی حبرئیل، فأمرنی أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه

السورة "إن الله يأمر بالعدل والإحسان و ابتداء ذی القربى و ینبی عن الفحشاء و

المنکر و المعی یعظکم لعلکم تذکرون" (رواه أحمد، ۴: ۲۱۸)

چوتھا باب

انبیائے کرام (علیہم السلام) پر ایمان

سوال : نبوت یا رسالت کسے کہتے ہیں؟

جواب : یہ بات تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم اور

بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ

نے ہر زمانے میں بندوں کے لئے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں

اور بندوں تک یہ احکام پہنچانے کیلئے کچھ خاص لوگوں کو منتخب

فرمایا (۷۳) ان خاص لوگوں کو جو احکام الہی بندوں تک

پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی یہ ذمہ داری نبوت اور رسالت

کہلاتی ہے اور یہ خاص بندے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔

چونکہ رسول اور نبی اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے

ہیں اس لئے ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم اور اطاعت کرنا

(۷۳) قال تعالیٰ : رسلاً مبشیرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل

وکان اللہ عزیزاً حکیماً (النساء : ۱۶۵) وقال : وما لولا ارسلت الیہا رسولاً لفسخ

آیاتک من قبل ان نذل ونحزى (ملئ : ۱۳۴)

فرض ہے اور ان کا انکار یا توہین کرنا کفر ہے۔ (۷۴)

سوال : نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہیں؟

جواب : جی ہاں! نبی اور رسول میں فرق ہے، چنانچہ نبی اس مفسد و

معصوم ہستی کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بندوں کے

پاس پہنچانے کے لئے بھیجا ہو، چاہے اس پر کوئی کتاب نازل

ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جبکہ رسول اس محترم اور معصوم ہستی کو

کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بندوں کے پاس

پہنچانے کے لئے بھیجا ہو اور اس پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی

ہو (۷۵)۔

(۷۴) قال تعالیٰ : یا ایہا اللدین آمنوا لاتقولوا راعداً وقلوا انظرنا واسمع وللکفرین

عذاب الیم (البقرة : ۱۰۴) وقال : یا ایہا اللدین آمنوا لاترفعوا اصواتکم فوق صوت

النسی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لاشعرون

(الحجرات : ۲) وقال : وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بلان اللہ (النساء : ۶۴)

(۷۵) قال الشیخ ملا علی الفاری : وظاهر کلام الامام تواف النسی والرسول کما

اجتاره ابن الہمام الا ان الحمهور علی ما قدمنا من ان الرسول اخص من النسی فی

تحقیق المرام (شرح الفقہ الاکبر : ۱۱)

سوال : انبیاء کرام کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟

جواب : ہر مومن کے لئے ضروری ہے کہ اجمالاً تمام انبیاء

کرام پر ایمان لائے (۷۶) اور ان کے بارے میں یہ

عقیدہ رکھے کہ :

(۱) :- انبیاء کرام اللہ تعالیٰ مقرب و محترم ہندے ہیں

جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لئے منتخب

فرمایا ہے (۷۷)۔

(۲) :- تمام انبیاء کرام صدق و امانت اور علم و حکمت میں تمام

مخلوقات سے بلند و برتر ہیں (۷۸)۔

(۷۶) قال تعالیٰ : کل آمن باللہ و ملکنہ و کتبہ و رسلہ لا تفرق بین احد من رسلہ

(البقرۃ: ۲۸۵) وقال فی شرح الفقه الاکبر : و رسلہ ائی جمیع انبیاءہ اعلم من انه امر

بتلویع الرسالۃ ام لا (الی قولہ) ولا تعین عددا لئلا یدخل فہم من لیس منہم او یخرج

منہم من ہو منہم (شرح الفقه الاکبر: ۱۱)

(۷۷) قال تعالیٰ : اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلا و من الناس (حج: ۷۵)

(۷۸) قال تعالیٰ : هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون (یس: ۵۲) وقال تعالیٰ : ائی

لکم رسول امین (شعراء: ۱۰۷) وقال : اولئک الذین آتیناہم الكتاب و الحکم

(۳) :

تمام انبیاء کرام ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں،

خصوصاً کفر و شرک سے معصوم ہیں اور ان چیزوں

سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت ملنے سے پہلے بھی اور

بعد میں بھی حفاظت فرمائی ہے (۷۹) اور وجہ اسکی یہ

ہے کہ نبوت اور رسالت ایسا جلیل القدر منصب ہے

کہ جس سے تمام انسانوں کی ہدایت اور ہمنمائی

وابتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو حکم دیا

کہ وہ اپنے نبی کی ہر قول و فعل میں پیروی کریں (۸۰)،

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور ناپسندیدہ بات کی

و النبوة العام: ۱۸۹)

(۷۹) قال الملا علی قاری : و الانبیاء علیہم السلام کلہم ائی جمیعہم متزہون

ائی معصومون عن الصفات و الکبائر ائی من جمیع المعاصی و الکفر و القذائح

ثم هذه العصمة ثابتة للانبیاء قبل النبوة و بعدها علی الاضح (شرح الفقه

الاکبر: ۵۴-۵۵)

(۸۰) قال تعالیٰ : و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ (النساء: ۶۴)

پیروی کا حکم نہیں دیتے (۸۱) اسلئے ضروری کہ

تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم اور پاک ہوں۔

(۴) : تمام انبیاء کرام بشر اور پاک ترین انسان ہیں ان کی ہستیاں

فرشتوں سے علیحدہ ہیں چونکہ وہ بشر تھے اس لئے بشری

تقاضے بھی پورے کرتے تھیاں کی بیویاں اور اولاد بھی

تھیں اور وہ کھاتے پیتے اور سوتے بھی تھے (۸۲)۔

(۵) : جس طرح تمام انبیاء کرام پر اور ان پر نازل کردہ کتب

پر اور معجزات پر اجمالا ایمان لانا فرض ہے اسی طرح

اس بات پر ایمان رکھنا بھی لازم ہے کہ تمام انبیاء کرام

نے فریضہ تبلیغ و دعوتِ حسن و خوبی مکمل طور انجام دیا

ہے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ (۸۳)

(۸۱) قال تعالیٰ : ان لا یأمر بالفحشاء (الأعراف: ۲۸)

(۸۲) قال تعالیٰ : ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية (عد: ۳۸)

وقال تعالیٰ : وما أرسلنا من قبلك من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام ویمشون فی

الأسواق (الفرقان: ۲۰)

(۸۳) قال تعالیٰ : الذین ینتھون رسالت اللہ ویحشونہ ولا یحشون احداً الا اللہ ذللاً

سوال : اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں؟

جواب : اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر ہمارے نبی

پاک ﷺ تک بہت سے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں، جن

میں سے بعض کا تذکرہ قرآن کریم اور احادیث شریف میں

بھی ہے (۸۴)، اور بعض روایات میں اگرچہ تمام انبیاء

کرام کی تعداد سوالا کھ اور بعض میں سوادو لاکھ آئی ہے،

مگر بہتر یہی ہے کہ انبیاء کرام کی صحیح تعداد کا علم اللہ

تعالیٰ کے حوالہ کر دیائے جائے، اور اجمالاً تمام انبیاء

کرام پر ایمان رکھا جائے (۸۵)

(۸۴) قال تعالیٰ : "و لقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم

نقصص عليك" الآية (المؤمن: ۷۸)

(۸۵) قال الملا علی قاری: "و قد ورد أنه علیه السلام مثل عن عدد الأنبياء عليهم

السلام، فقال: مائة ألف و أربعة و عشرون ألفاً و فی رواية مئتا ألف و أربعة و عشرون

ألفاً إلا أن الأولى أن لا يقتصر علی عدد فيهم" (شرح الفقه الأكبر: ۵۳)

خاتم المرسلین ﷺ

سوال: نبی کریم ﷺ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟

جواب: آنحضرت ﷺ کے بارے میں ہر مؤمن کے مندرجہ ذیل

عقائد ہونا ضروری ہیں:

(۱) افضل الخلق: آنحضرت ﷺ تمام مخلوقات میں افضل ترین

اور اللہ کے محبوب و مقبول ترین بندے ہیں، اللہ تعالیٰ

کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ہیں، افضلیت میں کوئی

فرد مخلوق آپ کے برابر تو کیا قریب بھی نہیں (۸۱)

(۱۶۶) عن ابن عباس قال: "إن الله فضل محمدا ﷺ على الأنبياء و على أهل السماء"

(الدارمی، رقم ۵۶) و عن انس قال: "قال النبي ﷺ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة و لا

قدح" (مسلم، رقم ۲۲۷۸/ترمذی، رقم ۳۱۶۰) و عن عبد الله بن عمرو قال: "قال

رسول الله ﷺ إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً" (رواه ابن ماجه و

قال تعالى: "إنك لعلى خلق عظيم" قال المفسر الرازي: "قلما أمر محمد ﷺ بأن

يشدى بالكل فكانه أمر بمجموع ما كان متفرقا فيهم و لما كان ذلك درجة عالية لم

تيسر لأحد من الأنبياء قلعه. لا حرم و وصف الله خلقه بأنه عظيم" (تفسير كبير،

(۲) رسالت کا عام ہونا: آنحضرت ﷺ قیامت تک کے آنے

والے تمام لوگوں کے لئے اور ہر زمانے کے لئے رسول ہیں۔

(۳) ختم نبوت: اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام

انسان و جنات کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے، (۸۸) اور

انبیاء و مرسلین کا سلسلہ آپ ﷺ کی نبوت پر ختم فرمادیا

ہے، چنانچہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں

آئے گا، قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے:

،، وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ،،

یعنی: لیکن (محمد ﷺ) اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، لہذا اس

آیت کریمہ کی رو سے جو شخص بھی ختم نبوت کا انکار

کے گا، کافر ہو جائے گا۔

آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد بہت سے نبوت کے

(۸۷) قال تعالى: "و ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و نذيرا" (سبا: ۲۸) و قال تعالى:

"يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا" (الأعراف: ۱۵۸)

(۸۸) قال تعالى: "يا معشر الجن و الإنس أ لم يأتيكم رسول منكم" (الأعام: ۱۳۰)

جھوٹے عویدار پیدا ہوئے، جیسے مسلمانہ کذاب، اور غلام احمد قادیانی (لعنة الله عليهم) جو خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔

(۳) رحمت و ہدایت : اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت اور باعث ہدایت بنا کر بھیجا ہے (۸۹)

(۵) وجوب اطاعت : آپ کی اطاعت ہر شخص پر فرض ہے، آپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے (۹۰)

(۶) محبت : اپنے ماں باپ، آل اولاد، بھائی بند اور مال و دولت وغیرہ سب کے مقابلہ میں، سب سے زیادہ آنحضرت ﷺ سے (عقلی) محبت ہونا ایمان کا تقاضہ ہے (۹۱)

(۸۹) قال تعالیٰ: "و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین" (الانبیاء: ۱۰۷)

(۹۰) قال تعالیٰ: "من یطع الرسول فقد اطاع الله" (النساء: ۸۰) و قال تعالیٰ: "و من یعص الله ورسوله" الآية (النساء: ۱۴)

(۹۱) قال تعالیٰ: "قل ان کان آباؤکم و ابناءؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموالکم اکثر عندکم من تحارة تحبون کسادها و مساکن ترضونہا احب الیکم من الله ورسوله

(۷) درود کی کثرت : آنحضرت ﷺ پر کثرت سے درود شریف بھیجا، مستحب اور نہایت عظیم عبادت ہے (۹۲)

(۸) بشریت : آنحضرت ﷺ خدا تعالیٰ کے بندے، کامل ترین

انسان، اور پاک ترین بشر ہیں، آپ ﷺ فرشتے یا نور نہیں ہیں، بلکہ دیگر بنی آدم کی طرح آپ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے (۹۳)

کچھ لوگ اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کے برخلاف، آنحضرت ﷺ کو ذات کے اعتبار سے بشر یعنی انسان کے بجائے (معاذ اللہ تعالیٰ) نور مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ قرآن و سنت دونوں کے خلاف ہے، چنانچہ قرآن

و جہاد فی سبیلہ فترضوا حتی یاتی اللہ بأمرہ" (توبہ: ۲۵) و قال تعالیٰ: "انسی اولی بالذمین من انفسہم" (احزاب: ۶)

(۹۲) قال تعالیٰ: "ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا انبیاء الذین امنوا صلوا علیہ و سلموا تسلیماً" (احزاب: ۵۶)

(۹۳) قال تعالیٰ: "و لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلاً" الآية (الانعام: ۹)

لہذا قرآن وحدیث دونوں سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی پاک ﷺ کامل ترین انسان اور پاک ترین بشر ہیں، اور اعلیٰ ترین منصب یعنی منصب نبوت و رسالت پر فائز ہیں، آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نور سے پیدا ہوئے، یعنی آپ بشر نہ تھے، جاہلانہ بات ہے۔

(۹) معراج: ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک ﷺ کو جاتے میں، جسم الطہر کے ساتھ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی، اور رات ہی میں آپ ﷺ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے (۱۰) آپ ﷺ نے یہ سیر جنت کی ایک سواری، براق، پر فرمائی، جس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نظر پڑتی تھی (۱۰)

الأقصى الذي باركنا حوله" الآية (بنی اسرائیل: ۱۵۰)

(۹۷) كما رواه البخاری في باب حديث المعراج عن مالك بن صعصعة (الجامع

الصحيح، رقم ۳۸۷)

کریم میں ارشاد خداوندی ہے:

«قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُدْعَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ» (۹۰)

یعنی: (اے محمد ﷺ) آپ فرمادیتے تھے کہ میں تمہارا جیسا انسان ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔

اور ایک حدیث صحیح میں سجدہ سمو کے ذیل میں ارشاد نبوی ہے کہ:

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» (۹۵)

یعنی: میں تو تمہاری طرح ہی انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے۔

(۹۴) سورة الكهف: ۱۱۰

(۹۵) رواه البخاری في الجامع الصحيح، رقم ۵۰۱، ۱۰۱۴۸، كتاب الصلاة

(۹۶) قال تعالى: "المنحان الذي أمرني بعده ليلان من المسجد الحرام إلى المسجد

(۱۰) حیات النبی: اہل سنت والجماعت کا اجتماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی ﷺ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ کی یہ حیات دنیا جیسی ہے، (برزخی حیات نہیں ہے جو تمام انسانوں کو قبر میں حاصل ہوتی ہے) تاہم اس زندگی میں آپ ﷺ مکلف نہیں ہیں، ہمارا یہی عقیدہ تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے بارے میں بھی ہے (۹۹)

(۹۹) لقوله تعالى / "و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء و لكن لا تشعرون" (بقرہ: ۱۵۴)، قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: "و إذا كان هذا في الشهداء، فالأنبياء أحق و أولى بذلك و تصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرة" (التذكرة للقرطبي في بيان حديث "صعقته" و مثله قال الإمام السيوطي في أنباء الأذكىاء في حياة الأنبياء (ص ۱۲)

و أما الأدلة من الأحاديث: فما روى عن أنس بن كاطط قال: "قال رسول الله ﷺ:

تاہم اسی کے ساتھ یہ اعتقاد بھی لازم ہے کہ تمام انبیاء کرام، بشمول نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ پر اس دنیا میں

و أما الأدلة من الأحاديث: فما روى عن أنس بن كاطط قال: "قال رسول الله ﷺ: الأنبياء، أحياء في قبورهم يصلون" (مجمع الروالد و منبع القوائد، ۸: ۲۱۱، باب ذكر الأنبياء) و روى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من صلى علي عند قبری سمعته و من صلى علي نائبا أبلغته" رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة المصابيح: ۹۳۴) شعب الإيمان البيهقي: ۱۵۸۳، ۲: ۲۱۸) و روى عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله ﷺ ليهيطن عيسى بن مريم إماما مقسطا" و لياتين قبری حتى يسلم علي و لأردن عليه" (الجامع الصغير: ۷۷۴۲) و قد ألف الإمام أبو بكر أحمد البيهقي رسالة علي حياة الأنبياء و أثبت فيها حياتهم بإيراد تسعة عشر أحاديث من شاء فليراجع ثمة و أما الدليل على اتفاق أهل السنة: "قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: قال المتكلمون المحققون من أصحابنا أن نبينا ﷺ حي بعد وفاته" (زيل الأوطا ۱: ۱۰۱) و قال الإمام أبو القاسم القشيري: "فأما ما حكى عنه و عن أصحابنا يقولون أن محمدا ﷺ ليس بشي في قبره و لا رسول بعد موته فينبان عظيم و كذب محض لم ينطق به منهم أحد و لا سمع في مجلس مناظرة ذلك عنهم و لا وجد في كتاباتهم، و كيف يصح ذلك و عندهم محمداً ﷺ حي في قبره" (الرسائل القشيرية ص ۱۰ رسالة ترتيب السلوك) و قد ذكر الإمام السيوطي أقوال العلماء في كتابه "أنباء الأذكىاء" حتى قال: "و تصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرة" (ص ۱۴)

(۱۰۰) لقوله تعالى: "كل نفس ذائقة الموت" (العمران: ۱۸۵) و قال تعالى: "إنك

موت بھی آئی ہے، اور تمام حضرات نے موت کا ذائقہ چکھا ہے (۱۰۰)

(۱۱) علم الاولین والآخرین: (۱۰۱) حضرت سیدنا رسول اللہ ﷺ کو تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے تھے، مخلوق میں سے کوئی بھی ان علوم تک نہیں پہنچ سکتا (۱۰۲) تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ کو ہر زمانے میں پیش آنے والے

میت و انہم میتون" (الزمر: ۳۰) فلا تعارض بین العقیاد المدکورہ و الآیین

(۱۰۱) قال الإمام الشعرائی فی البیاقیت و الحواجر: "و یؤید ذلك قوله ﷺ فی

حدیث "وضع الله تعالى یدہ بین یدین" (أی کما یلیق بحلالہ) فعلمت علم الأولین و

الآخرین" الخ (۲: ۲۱)

(۱۰۲) عن ابن عباس قال: "قال رسول الله ﷺ: أنانی ربی عز وجل اللیلة فی أحسن

صورة أحسنه، یعنی فی النوم" == إلی قوله == "وضع یدہ بین کفین حتی

وحدت بردھا بین یدین" أو قال نحری فعلمت ما فی السماوات و ما فی الأرض"

(مسند أحمد، ۱: ۳۶۸/سنن الترمذی، رقم ۳۲۴۷/کنز العمال، رقم ۴۴۳۲۱) و

روی البخاری عن عائشة "قول النبی ﷺ: "إن أنفکم وأعلمکم بالله أنا" (رقم ۲۰)

(۱۰۳) قال تعالى: "ولله غیب السموات و الأرض و ما أمر الساعة إلا کلمح البصر أو

ہر واقعہ کی اطلاع بھی ہو، کیونکہ کسی واقعہ کا آپ کے مشاہدے سے غائب ہونا آپ ﷺ کی علمی وسعت اور علمی افضلیت میں نقص پیدا نہیں کرتا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ بات مخفی رہی جس سے ہدہد کو آگاہی حاصل ہوئی، مگر اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی افضلیت اور زیادہ علم والا ہونے میں کوئی نقصان نہیں آیا۔

سوال: کیا حضور اکرم ﷺ کو علم غیب بھی تھا؟

جواب: علم غیب صرف خداوند قدوس کی صفت کمال ہے، یہ صفت

کسی مخلوق کو حاصل نہیں، اگر کوئی شخص (بلا تاویل) یہ

صفت کسی مخلوق کے لئے مانے گا تو وہ مشرک اور کافر ہو

جائے گا۔

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے: "وَلِلَّهِ غَيْبٌ

مَكُنْتُ أَعْلَمَ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْتَفِرَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ
السُّؤْمُ، (۱۰۲) یعنی اگر میں غیب دان ہوتا تو بہت سے
فائدے حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔
ان تمام آیات سے معلوم ہو گیا کہ عالم الغیب ہونا صرف
اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ صفت کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔
چنانچہ حضور اقدس ﷺ بھی عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ
عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے خبر دیئے غیب کی
ساری باتیں جانتا ہو اور اس کا یہ علم ذاتی ہو، آنحضرت ﷺ
نے جو امت کو بعض غیب کی باتیں بتائی ہیں ان کی خبر آپ ﷺ
کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور ہر غیب کا آپ کو علم نہ تھا، جیسا کہ
کثیر تعداد میں اس کے واقعات احادیث شریفہ میں موجود
ہیں، ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت لگائے

(۱۰۷) قال تعالى: "فلا يظهر على غيبه أحداً، إلا من ارتضى من رسول" (جن: ۲۶، ۲۷) و

السموات والأرض، (۱۰۳) یعنی آسمان وزمین کی پوشیدہ
باتوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، نیز ارشاد ہے:
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، (۱۰۴) یعنی پوشیدہ
باتوں کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ایک اور جگہ
ارشاد ہے: ، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا
أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، (۱۰۵) یعنی اے نبی آپ
کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے
خزانے ہیں یا یہ کہ میں غیب داں ہوں، نہ میں تم سے کہتا
ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ، لَوْ

هو أقرب إن الله على كل شيء قدير" (النحل: ۷۷)

(۱۰۴) قال تعالى: "و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو" و ما ننسقط من ورقة إلا

يعلمها" الخ الآية (الأنعام: ۵۹)

(۱۰۵) قال تعالى: "قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم

إني ملك" الآية (الأنعام: ۵۰)

(۱۰۶) (الأعراف: ۱۸۸)

معجزہ کہتے ہیں (۱۰۸)

سوال: کیا تمام پیغمبروں کو معجزے دیئے گئے ہیں؟

جواب: جی ہاں! اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا،

اس کو معجزے بھی دیئے، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا پیغمبر

ہونا واضح طور پر ثابت ہو جائے (۱۰۹)

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا، (۱۱۰)

حضرت صالح علیہ السلام کے لئے حاملہ اونٹنی کا پہاڑ میں

سے پیدا ہونا (۱۱۱) حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کا

علی وفق التحدی و هو دعوی الرسالة (شرح الفقہ الاکبر، ص ۶۹)

(۱۰۹) قال تعالیٰ: "القد ارسلنا رسلاً بالبیانات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان"

(الحدید: ۲۵)

(۱۱۰) قال تعالیٰ: "قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراهیم" (الانبیاء: ۶۹)

(۱۱۱) قال تعالیٰ: "و ابی سمود احمهم صالحاً قال يقوم اعبودوا اللہ ما لکم من اٰله غیره

قد جاء تکم بینه من ربکم هذه ناقة اللہ لکم آیه" (الأعراف: ۷۳)

(۱۱۲) قال تعالیٰ: "و الناله الحدید ان اعمل سبعات" (سبا: ۱۰، ۱۱)

جانے کا قصہ بھی ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ کے لئے عالم

الغیب کا لقب استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں شرک

کاشبہ ہے۔

معجزے:

سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں (نبوت کے برحق ہونے کو ثابت

کرنے کے لئے) ظاہر ہونے والی وہ عجیب و غریب بات جو

عام معمول کے خلاف اور ظاہری اسباب کے بغیر ہو اس کو

قال الملا علی قاری فی شرح الفقہ الاکبر: "ثم اعلم ان الانبياء عليهم السلام لم يعلموا

المعيات من الاشياء، الا ما علمهم الله تعالى احياناً، و ذكر الحنيفة تصريحا بالتكفير

باعتقاد ان النبي عليه الصلاة و السلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: "لا يعلم من في

السموات و الارض الغيب الا الله" و ما يشعرون امان يعلمون" (النمل: ۶۵) و قال في

المهتد علی المفند: "لا يجوز هذا الإطلاق (أي إطلاق عالم الغيب) و ان كان يتأويل

لكونه موهماً بالشرك" (ص ۲۴۳)

(۱۰۸) قال الملا علی قاری: "ان المعجزة أمر حازق للعادة كإحياء ميت و إغدام جبل

موم کی طرح نرم ہونا (۱۱۲) حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات اور ہواؤں کا تابعدار ہونا (۱۱۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے لکڑی کا اڑدھان جانا اور بغل میں دست مبارک دے کر باہر نکلنے سے ہاتھ کا چمکدار ہونا، (۱۱۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم خداوندی مردوں کو زندہ کرنا اور مادر زاد نابینا کی بینائی حکم الہی دست مبارک پھیر کر لوٹا دینا (۱۱۵) وغیرہ وغیرہ

(۱۱۳) قال تعالیٰ: "و لسلیمان الريح غدوها شهر و راحها شهر و أسلنا له عين القطر و من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه" (سبأ: ۱۲)

(۱۱۴) قال تعالیٰ: "و ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين" (الأعراف: ۱۰۷/ الشعراء: ۳۲) و قال تعالیٰ: "و نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين" (الأعاف: ۱۰۸/ الشعراء: ۳۳)

(۱۱۵) قال تعالیٰ: "أني جئتكم بأية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله و أبرئ الأكمه و الأبرص و أحي الموتى بإذن الله" الآية (ال عمران: ۴۹)

(۱۱۶) قال تعالیٰ: "اقتربت الساعة و انشق القمر و إن يرو آية يعرضوا و يقولوا سحر

سوال : ہمارے نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزے دیئے؟
جواب : اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک ﷺ کو بہت سے معجزے دیئے، جن میں سے چند یہ ہیں :

(۱) شق القمر: جب کفار مکہ نے آنحضرت ﷺ سے کہا کہ اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، چنانچہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی پھر چاند کی طرف انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، کفار کو یقین نہ آیا اور وہ حیرت سے آنکھوں پر کپڑا مل کر صاف کرتے اور دیکھتے تھے، عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند اسی طرح رہا اور اس کے بعد پھر سابقہ حالت پر لوٹ آیا، مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ نے ہم پر جادو کر دیا تھا اس لئے ہم باہر سے آنے والے

مسافروں کا انتظار کرتے ہیں پھر ان سے دریافت کریں گے
اگر انہوں نے تصدیق کر دی تو حج مان لیں گے، چنانچہ
جب مسافر آئے تو انہوں نے بھی شق القمر کا مشاہدہ بیان
کیا مگر اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور اس کو
جادو قرار دیا (۱۱۶)

(۲) قرآن کریم: نبی کریم ﷺ کو سب سے بڑا اور قیامت تک باقی

مستمر (القمر: ۱، ۲) و عن مجاہد عن ابن عمر قال: "انفلق القمر علی عهد رسول
اللہ ﷺ فقال رسول اللہ ﷺ: اشهدوا۔" (ترمذی، باب ما جاء فی انشقاق القمر،
۲: ۴۱) و عن ابن مسعود قال: "بینما نحن مع رسول اللہ ﷺ یعنی فانشق القمر
فلقین فلقاً من وراء الحبل و فلقه دونہ فقال لنا رسول اللہ ﷺ: اشهدوا، یعنی: اقربت
الساعة و انشق القمر" (ترمذی، أبواب التفسیر، ۲: ۱۶۶) و عن انس قال: "سأل
أهل مكة النبی ﷺ آیه فالشق القمر بمكة مرتین فنزلت الساعة و انشق القمر،
و إن یروا آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر"۔ الخ (ترمذی، ۲: ۱۶۹) و عن ابن
مسعود قال: "انشق القمر علی عهد رسول اللہ ﷺ: فرقتین، فرقة فرق الحبل و فرقة
دونه (أی تحته)، فقال رسول اللہ ﷺ: اشهدوا۔" (الجامع الصحیح للبحاری،
۲: ۷۲۱)

(۱۱۷) قال تعالیٰ: "إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون" (الحجر: ۹)

رہنے والا معجزہ قرآن کریم عطا ہوا، ایسا عظیم الشان معجزہ
پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا (۱۱۷)
قرآن کریم وہ عظیم الشان معجزہ علمی ہے کہ اس جیسا فصیح
و بلیغ کلام نہ پہلے کوئی بنا سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی بنا سکے
گا، اور نہ انسانوں میں اس کی طاقت ہے نہ جنات میں (۱۱۸)

(۳) صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام جن کی

تعداد ڈیڑھ ہزار کے لگ بھگ تھی، پانی کی قلت کا شکار
ہوئے، اور حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر
ہو کر پانی نہ ملنے کی شکایت کی، نبی کریم ﷺ کے سامنے
ایک برتن پانی کا رکھا تھا، آپ ﷺ نے اس برتن سے
وضو فرمایا اور اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈال دیا تو پانی

(۱۱۸) قال تعالیٰ: "انزلنا من السماء ماء فاصبح ناضجاً و انزلنا من السماء ماء فاصبح ناضجاً" (الأنعام: ۱۰۱)

باتوں بمتلہ و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً" (اسراء: ۸۸)

(۱۱۹) رواہ البخاری فی الجامع الصحیح، رقم ۱۳۵۲، عن جابر

آپ ﷺ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پھوٹے لگا، حتیٰ کہ تمام حضرات نے سیر ہو کر پیا اور وضو فرمایا، حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس دن ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔

(۳) درخت کا حکم ماننا: (۱۲) ایک مرتبہ حضرت نبی کریم ﷺ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی اور اس جگہ کوئی آئینہ تھی، وادی کے کنارے پر دو درخت تھے، آپ ﷺ نے ایک درخت کی ٹنٹی پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میرا کماناں، تو وہ درخت آپ ﷺ کے ساتھ چل پڑا جس طرح فرمانبردار اونٹ ساتھ چلتا ہے، حتیٰ کہ آپ دوسرے درخت کے پاس آگئے، اور اس کی ٹنٹی پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر، چنانچہ جب دونوں درخت مل گئے تو آپ ﷺ

(۱۲۰) رواہ مسلم، رقم ۳۰۱۲/۳ عن جابرؓ

نے حاجت پوری فرمائی، اس کے بعد دونوں درخت جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔

(۵) پہاڑوں کا سلام کرنا: حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس ﷺ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھا، ایک مرتبہ آپ ﷺ کے ساتھ مضافات مکہ میں نکلا تو جو پہاڑ اور درخت سامنے آتا وہ یہ کہتا:،،السلام عليك يا رسول الله،، (۱۱)

ان کے علاوہ اور بہت سے معجزے کتب احادیث میں موجود ہیں جن سے آپ ﷺ کی نبوت کی کھلی تائید ہوتی ہے۔



(۱۲۱) رواہ الترمذی عن علیؓ حدیث: ۳۶۳۵ والدارمی: رقم ۲۱ ج ۱ ص ۲۵

والترغیب والترہیب: ۲: ۲۲۹-

پانچواں باب

قیامت اور حشر و نشر

سوال: موت کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: موت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے (۱۲۲) جب کسی جاندار پر آتی ہے تو اس کے جسم سے روح کا رابطہ ختم کر دیتی ہے، موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی ملحد، مشرک اور کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہر جاندار کو ضرور آتی ہے، (۱۲۳) موت آنے سے میت عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے

سوال: موت کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟

جواب: موت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ: ہر نفس کے لئے اس کا ایک وقت مقرر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادیا

(۱۲۲) قال تعالیٰ: "الذی خلق الموت والحیة لیلوکم انکم احسن عملاً"

(ملک: ۲)

(۱۲۳) قال تعالیٰ: "یکمل نفس ذالقة الموت" (آل عمران: ۱۸۵)

ہے، پس کسی کو بھی موت اس کے مقررہ وقت سے ایک لمحہ پہلے یا بعد میں نہیں آئے گی (۱۲۴) اور یہ ہر جاندار کو ضرور بالضرور آتی ہے، کوئی جاندار اس سے بچ نہیں سکتا (۱۲۵) موت مومن کے حق میں نعمت اور راحت کا پیش خیمہ ہے، جبکہ کافر و منافقان کے لئے یہ عذاب و عقاب کی ابتدا ہے (۱۲۶) قیامت میں جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم، جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، پھر جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے (۱۲۷)

(۱۲۴) قال تعالیٰ: "قودا جاء اھلہم لا یستأخرون ساعة و لا یستفدعون" (نحل: ۶۱)

(۱۲۵) قال تعالیٰ: "انما تکونوا ہدیر ککم الموت و لو کنتم فی بروج مشکية"

(النساء: ۷۸)

(۱۲۶) "الدلیا سخن المؤمن و حنة الکافر" (رواہ ابن ماجہ، کتاب الزہد، رقم

۴۱۱۳، [مکتب علمیہ بیروت] سنن الترمذی، رقم ۲۳۲۹/مسلم، رقم ۲۹۵۶،

مسند أحمد ۲: ۳۲۳)

(۱۲۷) عن أبی سعید الخدریؓ (فی حدیث طویل) --- یوتی بالموت یوم القیامة

۳ :- قیامت قائم ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہمیشہ تک، یہ دار بقاء اور دار آخرت ہے (۱۲۹)

سوال: موت کے بعد برزخ میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟
جواب: موت کے بعد ہر میت چاہے مسلمان ہو یا کافر، عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، چنانچہ وہاں مومن کی روح کو بشارتوں اور خوشخبریوں کے ساتھ اور نہایت اعزاز و اکرام سے ساتوں آسمان پر لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام علمین میں لکھ دیا جاتا ہے۔

اور اگر خدا انخواستہ کافر ہے تو اس کی روح کو نہایت تکلیف کے ساتھ اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے اور نہایت بدبودار کپڑے میں قید کر کے آسمانوں پر لیجایا جاتا ہے، مگر آسمان کے

العذاب ما یصل الی المقبور" (ص ۴۵۱)

(۱۲۹) قال فی شرح العقیة الطحاویة: "فالحاصل أن الدور ثلاث دار الدنيا و دار

البرزخ و دار القرار" (ص ۴۵۲)

سوال: برزخ کیا ہے؟

جواب: ہر انسان پیدا ہونے کے بعد تین دور سے گذرتا ہے،

۱ :- پیدا ہونے کے بعد موت سے پہلے تک، یہ عالم دنیا ہے۔

۲ :- موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک، یہ برزخ کا

دور ہے، اگر مردہ قبر میں ہے تو قبر اس کے لئے برزخ ہے، اور

اگر کسی درندے کے پیٹ، سمندر کی تہ، یا ہواؤں کے دوش

پر، غرض جہاں بھی ہو، اس کا عالم برزخ وہیں ہوگا۔ (۱۲۸)

علی صورة کیش أملح فیذبح بین الحنة و النار (متفق علیہ) رواد البحاری فی الجامع الصحیح. رقم ۴۷۳۰ / مسلم. رقم ۲۸۴۹) و عن ابن عمر قال: "قال رسول الله ﷺ: إذا صار أهل الحنة إلى الحنة و أهل النار إلى النار حتى يجعل بين الحنة و النار، ثم یذبح، ثم ینادی مناد: بأهل الحنة حلوا لا موت و بأهل النار حلوا لا موت فیرداد أهل الحنة فرحاً إلى فرحهم و یرداد أهل النار حزناً إلى حزهم" (الجامع الصحیح للبخاری، رقم ۶۵۴۸، ص ۲۰۰ ج ۴ / فتح الباری، رقم ۶۵۴۸، ص ۴۱۵ ج ۱ / کنز العمال، رقم ۳۹۴۵۰، ص ۱۰۰ ج ۱۴)

(۱۲۸) قال فی شرح العقیة الطحاویة: "اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات و هو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبراً أو لم يقبر أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً أو لسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه و بدنه من

آگ کی لپٹیں لگتی رہتی ہیں، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں جانب کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ) (۱۳۰)

تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر اور راحت برزخ برحق ہے، چنانچہ ایمان والوں کو قبر پر برزخ میں راحت و آرام سسر تیں اور خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، جبکہ کفار

(۱۳۰) كما ورد في رواية عن براء بن عازب قال: "كنا في حنارة في بقيع العرقد

فأتانا النبي ﷺ فقعده وقعدنا حوله كأن علي رؤوسنا الطير وهو يلحده فقال: أعود

بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة

و انقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس

معهم كفن من أكفان الحنة و حنوط الحنة حتى يحلسوا منه مد البصر، ثم يحيى ملك

الموت عليه السلام حتى يحلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة

من الله و رضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السماء" الخ (رواه أحمد

۴: ۲۸۸، ۲۸۷ / أبو داود، رقم ۴۷۵۳) و قال في شرح الفقه الأكبر: "و إعادة الروح

إلى العبد أي جسده بجميع أجزائه أو ببعضها محتمة أو منفردة في قبره حتى"

دروازے اس کے لئے نہیں کھولے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو پختی زمین کے سب سے تنگ حصہ میں پھینک دیا جاتا ہے۔

پھر اس کے بعد مومن یا کافر کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ان کی روح ان کی جسم میں لوٹادی جاتی ہے، اور منکر نکیر ان سے سوالات کرتے ہیں، اگر مردہ مومن ہے تو سوالات کے درست جواب دیتا ہے اور اگر کافر ہے تو جواب میں لاعلمی ظاہر کرتا ہے۔

چنانچہ مومن کے لئے اس سوال و جواب کے بعد جنت کا فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کے رخ پر اس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر کو اس کے لئے تاحد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ کافر کے لئے آگ کا فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے، جہاں اس کو جہنم کی گرمی اور

ہیں (۱۳۲)

سوال: قیامت کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: جب اس دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہ رہے گا، کفر و شرک اور نافرمانی پھیل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے، جس کی بیست ناک اور کڑک دار آواز سے تمام جاندار مر جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ روٹی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، غرض تمام دنیا فنا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ (۱۳۲)

(۱۳۲) لما فی حدیث براء بن عازب المزکور آلفا = فتعاد روحہ فی جسدہ و بانیہ ملکات فیحلسانہ فبقولان: من رمل، فبقول: ہاہ ہاہ، فبقولان: ما دینک، فبقول: ہاہ ہاہ لا أدری، فبقولان: من هذا الرجل الذی بعث فیکم، فبقول: ہاہ ہاہ لا أدری، فینادی مناد من السماء أن کذب عیدی فأفرشوه من النار و افتحوالہ بأبأ إلی النار فبانیہ من حرها و سموها و یضیق علیہ قبرہ حتی یتخلف فیہ أضلاعہ الخ (سنن أبی داؤد، کتاب السنۃ، رقم ۴۷۵۳)

(۱۳۳) "لا تقوم الساعة حتی یقال فی الأرض اللہ اللہ" (مسلم، ۱: ۸۴) "لا تقوم

و منافقین اور گناہگاروں عذاب و تکلیف کا شکار رہیں گے (۱۳۱)

سوال: منکر نکیر کون ہیں؟

جواب: یہ فرشتے ہیں، جو میت سے برزخ میں تین سوالات کرتے ہیں:

۱: تیرا رب کون ہے؟ ۲: تیرا دین کیا ہے؟

۳: رسول تیرا کون ہے؟

چنانچہ اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ میت جب قبر میں دفن کر دی جاتی ہے، تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور منکر نکیر اس سے مذکورہ بالا تین سوالات کرتے

(۱۳۱) قال تعالیٰ: "النار بعرضون علیہا غدواً أو عشیاً و یوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب" (المومن: ۴۶) و قال تعالیٰ: "الیوم تجزون عذاب الیوم بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق" (انعام: ۹۳) و قال تعالیٰ: "و لو ترى إذ یوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون و جوههمو أذبارهم و ذوقوا عذاب الحریق" (الأنفال: ۵۰) و عن عبد اللہ بن عباس قال: "مر النبی ﷺ بقبرین فقال: إنہما یعذبان و ما یعذبان فی کبیر" الحدیث (الجامع الصحیح للبخاری، رقم ۲۱۸/مسلم، رقم ۲۹۲)

سال اور صدی تک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم (۱۳۱)
یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں
بتایا (۱۳۰)

ہاں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ کے ذریعہ ہمیں قیامت کی
نشانیوں بتادی ہیں، ان میں سے اکثر ظاہر ہو چکی ہیں، چند بڑی
علامتیں ظاہر ہونا باقی ہیں۔

سوال: قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟

جواب: قیامت کی علامات دو قسم کی ہیں:

پہلی علامات صغریٰ، یعنی چھوٹی علامتیں اور دوسری علامات

(۱۳۶) قال تعالیٰ: "إن الله عنده علم الساعة" (لقمن: ۳۰) و قال تعالیٰ: "يستلم نك
عن الساعة أنبأ مرسلاً قبل إنما علمها عند رب لا يحلها لوقتها إلا هو" الآية
(الأعراف: ۱۸۷)

(۱۳۷) كما ورد في حديث جبرئيل: ما المسئول عنها بأعلم من السائل" (الجماع
الصحيح للبخاري، رقم ۵۰/مسلم، رقم ۸، ۱۰/أبو داؤد، رقم ۴۶۹۰/السنن، رقم
۴۹۹۰/ابن ماجه، رقم ۶۴، ۶۳/مسند أحمد، ص ۱۲۹ ج ۴/ص ۱۶۳ ج ۴)

پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا، تو سب حساب و کتاب کے لئے
دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اسی کا نام قیامت اور حشر و نشر
ہے (۱۳۲)

سوال: قیامت کب آئے گی؟

جواب: قیامت کے دن کی خبر انبیائے کرام اپنی امتوں کو دیتے چلے
آئے ہیں، مگر پیغمبر خدا محمد ﷺ نے آکر بتایا کہ قیامت
قریب آ پہنچی ہے (۱۳۵) اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول
ہوں۔

لیکن قیامت کب آئے گی؟ اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا،

الساعة إلا على شراز الناس" (الدر المشور، ۶:۵۴)

(۱۳۴) و قال تعالیٰ: "ثم نفع فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون" (الزمر: ۶۸) و قال

تعالیٰ: "ثم إنكم يوم القيامة تبعون" (المؤمنون: ۱۶)

(۱۳۵) قال تعالیٰ: "انقربت الساعة و انشق القمر" (القمر: ۱) و عن أنس قال: "قال

رسول الله ﷺ: معت أنا و الساعة كفتين" و أشار أبو داؤد بالسبابة و الوسطى فما

فضل أحدهما على الأخرى (ترمذی، أبواب الفتن، ۲:۴۴)

کبری یعنی بڑی علامتیں۔

علامات صغریٰ یعنی وہ علامتیں جو ظاہر تو ہو چکی ہیں مگر ابھی انتہاء کو نہیں پہنچی ہیں، ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا یہاں تک کہ علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی (۱۳۸)

علامات صغریٰ بہت سی ہیں، جن میں سے چند علامات ذکر کی جاتی ہیں:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ چھ نشانیاں ظاہر ہوں گی: ۱: میری وفات ۲: بیت المقدس کا فتح ہونا، ۳:

مسلمانوں میں ایک دہائی بہماری کا پھیلنا ۴: مال کا اتنا زیادہ ہونا کہ لوگ سو دینار کو بھی حقیر سمجھنے لگیں، ۵: ملک عرب کے گھر گھر میں فتنہ کا داخل ہونا ۶: مسلمان اور عیسائیوں کے

درمیان ایک صلح کا ہونا اور پھر عیسائیوں کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہونا (۱۳۹)

ان مذکورہ چھ علامتوں میں سے پانچ ظاہر ہو چکی ہیں، چنانچہ نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی، پھر حضرت عمرؓ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، اور حضرت عمر ہی کے دور خلافت میں مسلمانوں کے لشکر میں عمواس کے مقام پر ایسا طاعون پھیلا کہ تین دن میں تیرہ ہزار مسلمان اس سے وفات پا گئے، جبکہ چوتھی اور پانچویں علامت حضرت عثمانؓ کے دور میں ظاہر ہوئیں کہ مسلمانوں کے پاس دولت کی ریل تیل ہو گئی۔

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس

(۱۳۹) عن عرف بن مالک قال: "أثبت النبي ﷺ في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم.

فقال: أعدد ستاين بدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موان بأخذ فيكم

كفعاض الغنم" الحديث (بخاری: ۳۱۷۶)

صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا (۱۳۲) چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے (۱۳۳) شرابکا نام نبیذ (شریت) سود کا نام تجارت اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا، عورتیں، عورتوں سے اور مرد، مردوں سے شادی کریں گے (۱۳۵) عورتیں اتنے باریک اور چست کپڑے پہنیں گی کہ وہ اس میں تنگی نظر آئیں گی،

طہرت الأصوات فی المساجد و ساد القبيلة فاستقیم و کان زعم القوم أردلہم و اکرم الرجل مخافة شره الخ (ترمذی، ۲۲۱۶)

(۱۴۳) عن ابن مسعود سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة و حتى تحدد المساجد طرفا لا يسجد لله فيها حتى يتجاوز حتى يبعث العلام بالشيخ يريد بين الأفغان و حتى ينطلق الفجر إلى الأرض النامية فلا يجد فضلا" (الدر المنثور، ۶: ۵۳/منز العمال، رقم ۳۸۵۸۴، ص ۲۴۶ ج ۴)

(۱۴۴) كما ورد في حديث جبرئيل: "و أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاة ينظاولون في البیان" الخ (سنن أبو داؤد، رقم ۴۶۹۵، ص ۲۲۳ ج ۴)

(۱۴۵) قال في الإشاعة: "و منها إذا استحلحت هذه الأمة الخمر بالنيبذ... و الربا بالبيع... و السحت بالهدية و منه إذا ستغنى النساء بالنساء و الرجال بالرجال

فبشرهم بربح حمراء" (ديلمی عن انس بحوالہ الإشاعة ص ۷۲)

نے انکارے کو اپنی منہمی میں پکڑ رکھا ہو (۱۳۰) تجارت کی کثرت ہوگی یہاں تک کہ بیوی شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک و معاون ہوگی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کی کثرت ہوگی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، جھوٹی گواہیوں کی کثرت ہوگی (۱۳۱) قبیلوں اور قوموں کے رہنما منافق، رزیل ترین اور فاسق لوگ ہوں گے، تعلیم محض دنیا کے لئے ہوگی، رشتہ داروں کے حقوق پامال کئے جائیں گے اور اجنبی لوگوں سے حسن سلوک ہوگا، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی (۱۳۲) اسلام

(۱۴۰) عن انس عن النبي ﷺ: "يأبى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالفابض على الحمير" (ترمذی، ۲: ۵۰)

(۱۴۱) عن ابن مسعود عن النبي ﷺ: "إن بين يدي الساعة تسلي الحاصو فشر التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة و قطع الأرحام و فشو القلم و ظهور الشهارة بالزور" (مسند أحمد، ۱: ۴۰۸، ۴۰۷/کنز العمال، رقم ۳۸۵۸۴، ص ۲۴۶ ج ۴)

(۱۴۲) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إذا اتخذ الفئ دولاً و الأمانة مغنما و الزكاة مغرماً و تعلم لغبر الدين و إطاع الرجل امرأته و عتق أمه و ادنى صديقه و أقصى أباه و

ان کے سر بنجی اونٹ کے کوہان کی طرح اونچے ہوں گے، وہ منگ منگ کر چلیں گی، خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی (۱۳۶)

علامات صغریٰ اور بھی بہت سی احادیث میں موجود ہیں، ان سب کی خبر حضور اقدس ﷺ نے اس دور میں دی تھی جب ایسی باتوں کا تصور بھی مشکل تھا، مگر آج سب لوگ ان علامتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔

سوال: بڑی علامتیں کون کونسی ہیں؟

جواب: قیامت کی بڑی علامتیں یہ ہیں:

(۱) ظہور مہدی: مسلمانوں کے آخری امیر حضرت امام

ممدی علیہ السلام ہوں گے، ان کے ظہور کا وہی وقت ہے جو

(۱۴۶) عن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: صئقان من أمتی من أهل النار لم أرہم بعد، نساء کاسیات عاریات مائلات معیلات علی رؤسہن أمثال أسنمة الإبل لا یدخلن الحنة ولا یحدن ریحہا الخ (مسلم: ۲۱۲۸/مسند أحمد: ۲: ۴۴۰)

و جال کے ظہور کا وقت ہے۔

حضرت امام ممدی علیہ السلام، حضور اقدس ﷺ کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبد اللہ ہوگا (۱۳۷)

آپ کا قد کچھ لمبا ہوگا، جسم مضبوط اور رنگ گورامائل بہ سرخی ہوگا، چہرہ کشادہ، ناک پتلی اور بلند ہوگی (۱۳۸) زبان میں کچھ لکنت ہوگی، جب یہ لکنت زیادہ تنگ کرے گی تو آپ رانوں پر ہاتھ ماریں گے (۱۳۹)

(۱۴۷) عن زر عن عبد اللہ قال: قال رسول اللہ ﷺ لا تذهب الدنيا حتى یملک العرب رجل من أهل بیتی یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، الحدیث (رواه الترمذی، ۲: ۴۶) وقال فی حدیث سفیان: لا تذهب الدنيا أو لا تنقض الدنيا حتى یملک العرب رجل من أهل بیتی، یواطی اسمہ اسمی، (أبو داؤد: ۵: ۴۲۸۵)

(۱۴۸) عن ابی سعید الحدادیؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ المہدی منی أجدی الحیة واتفی الأنف (أبو داؤد: ۵: ۴۲۸۵)

(۱۴۹) قال الإمام البرزنجی فی الإشاعة: فی لسانہ نفل وإذا بطلاً علیہ الکلام ضرب فحدق الأیسر یندب الیمنی (ص: ۸۹)

بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی (۱۵۲) یہ ملک عراق اور ملک شام کے درمیان ظاہر ہوگا، سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد خدائی کا دعویٰ ار بن جائے گا، اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جسے وہ جہنم کہے گا اور ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی، یہ اپنے لشکر کے ساتھ بے شمار ملکوں میں فساد پھیلاتا پھرے گا، جو شخص اس کی اطاعت کرے گا، اس کو اپنی جعلی جنت کی سیر کرائے گا اور جو شخص اس کی نافرمانی کرے گا، اس کو اپنی خود ساختہ جہنم میں ڈال دے گا، جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔

(۱۵۲) و عن ابن ہریرۃ عن النبی ﷺ قال: "يخرج الدجال على حمار أقرأى شديد البياض ما بين أذنيه سبعون زراعاً" (مشكاة المصابيح: ۵۴۹۳، رواه البيهقي في كتاب البعث و النشور)، كما روى عن التوامس بن سمعان قال: "ذكر رسول الله ﷺ الدجال ذات غداة" -- إلى قوله -- "قلنا يا رسول الله فما أسراعه في الأرض قال: كالغيث استدرته الريح" (رواه مسلم: ۲۹۳۷/ترمذی: ۲۲۴۵/ابن ماجه: ۴۰۷۵)

آپ چالیس برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے، اس کے بعد سات یا آٹھ برس حیات رہیں گے (۱۵۰)

(۲) **ظہور دجال**: دجال ایک جھوٹا شخص ہوگا، جس کی داہنی آنکھ کافی ہوگی، بال حبشید کی طرح ہوں گے، اس کی پیشانی پر ک، ف، ر، لکھا ہوگا، (۱۵۱) ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لئے ہوگا، جس کا رنگ نہایت سفید ہوگا اور اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان ستر ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اس کی رفتار

(۱۵۰) عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ المهدي أحلى الجبهة وأقنى الأنف، يمدأ الأرض فسقطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، يملك سبع سنين (أبو داود: ۴۲۸۵)

(۱۵۱) عن أس عن النبي ﷺ قال: "ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا ياتة أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب ك ف ر" (بخاری: ۷۱۳۱/مسلم: ۲۹۳۳) وعن التوامس بن سمعان قال: ذكر رسول الله ﷺ الدجال ذات غداة (إلى قوله) إنه شاب جعد فطط عينها طاففة (مسلم: ۲۹۳۷/ترمذی: ۲۲۴۵/ابن ماجه: ۴۰۷۵)

(۳) نزول عیسیٰ علیہ السلام: جب محاصرہ طول کھینچے گا

تو حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال سے جنگ کا فیصلہ کر لیں

گے، جنگ کے لئے صف ہندی کر لی جائے گی اور دونوں لشکر

جنگ کے لئے تیار ہوں گے اسی دوران ایک دن مسلمان فوج کی

نماز باجماعت ادا کرنے کھڑے ہوں گے اور امام مہدی علیہ

السلام امامت کے لئے آگے بڑھ جائیں گے، تو حضرت یحییٰ

علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اپنے دونوں

ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے آسمان سے نازل

ہوں گے (۱۵۴) اور امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا

(۱۵۵) قال تعالیٰ: "وإن لعلم للساعة" (زخرف، ۶۱) و قال تعالیٰ: "وإن من أهل

الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته" و عن الترمذی بن سمعان فی حدیث طویل۔۔۔ الی

قوله۔۔۔ "بینما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فیترنل عند المنارة البيضاء

الشرقی بدمشق بین مہرودیین واضعاً کفہ علی احتحة ملکین إذا طأطأ رأسه فظرو إذا

رفع تحدرن منه حمان کاللؤلؤ فلیحل لکافر بحد ریح نفسه إلا مات و نفسه یتبھی

حیث یتبھی طرفه فیطلبه حتی یدرکه باب لد فیقتله" الحدیث (رواد مسلم و غیرہ

وہ گھومتا پھرتا اور فساد برپا کرتا کہ معظمہ کی طرف آئے گا لیکن

فرشتوں کی حفاظت کے وجہ سے اس کی حدود میں داخل نہ ہو

سکے گا یہاں سے ناکام ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کریگا اور جبل احد

کے پاس ڈیرہ ڈال دیگا، مگر مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا،

پھر یہ شام میں فلسطین کے ایک شہر تک آئے گا، اور مسلمان

حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس کے

ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے (۱۵۴)

(۱۵۴) عن أبی امامة الباهلی قال: "خطبنا رسول الله ﷺ۔۔۔ الی قوله۔۔۔ و إنه

بحرج من حلة بین الشام و العراق فیعبث بینا و یعبث شمالاً۔۔۔ إنه یدأ فیقول أنا نبی

و لانی بعدی ثم یشی و یقول أنا ربکم و لا ترون ربکم حتی تموتوا و إنه أغور و أن

ربکم لیس بأغور و إنه مکتوب بین عبینہ کافر یقرأ کل مؤمن کتاب أو غیر کتاب

وإن من فتته أن معه حنة و ناراً فناد حنة و حنته نار۔۔۔ و أنه لا یقی شیء من الأرض إلا

وظنه و ظهر علیہ إلا مکة و مدینة لا یأتیهما من نقب من نقابهما إلا لقیته الملائكة

بالسیف صلته"۔۔۔ الی قوله۔۔۔ "فأمن العرب یومئذ قال هم قلیل و حلهم بیت المقدس

و أمامهم رحل صالح فینما إمامهم قد تقدم بصلی بهم الصبح إذ نزل علیهم عیسی بن

مریم" الحدیث (رواد أبو داؤد: ۴۳۱۶/سنن ابن ماجه: ۴۰۷۷)

فرمائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد

درمیانہ رنگ سرخ و سفید، بال شانوں تک پھیلے ہوئے،

سیدھے صاف اور چمکدار ہوں گے، جیسے غسل کے بعد ہوتے

ہیں (۱۵۵) جسم پر ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے (۱۵۶)

الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں

گئے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ، حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو اس

بحوالہ مذکورہ)

(۱۵۵) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ليس بي وبني وبين عيسى و آله نازل

فإذا رأيتوه فاعرفوه رجل مربع إلى الحمرة و البياض بين ممصرتين كان رأسه بقطر

و إن لم يصبه بلل الحديث (رواه أبو داود: ۴۳۲۴)

(۱۵۶) في رواية النوايس بن مسعود: "بين مهرو ذئب" مهرو ذئب مثل مهرو ذئب بالذال

المعجمة أي ينزل في حنتين فبهما صخرة خفيفة (هامش التصريح لأبي قنابح أبي غدة

ص: ۳۶)

کی ہوا لگے گی وہ مر جائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی

وہیں تک سانس بھی پہنچے گا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

دیکھ کر اس طرح گھٹنے لگے گا جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے

(۱۵۷) چنانچہ وہ فرار ہونے کی کوشش کرے گا، حضرت

عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کر کے باب لڈ پر اس کو قتل

کر دیں گے جو دمشق (شام) کا ایک محلہ ہے (۱۵۸)

دجال کے قتل کے بعد مسلمان اس کے لشکر کو چن چن کر قتل

کریں گے، کسی یہودی کو کہیں پناہ نہ ملے گی، حتیٰ کہ اگر وہ کسی

درخت یا پتھر کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ بھی بول اٹھے گا

(۱۵۷) عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق

أو يداق... إلى قوله... فبيناهم يعدون للقتال يسرون الصلوة إذا أقيمت الصلاة

فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فلو تركه لا نذاب

حتى يهلك الحديث (رواه مسلم: ۲۸۹۷)

(۱۵۸) كما روى ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي. حديث: ۴۰۷۷. و في أبي داود

عن النوايس بن مسعود الكلابي. الحديث: ۴۳۲۱)

گے (۱۲۰)

سوال: یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں؟

جواب: یاجوج ماجوج ایک فسادی قوم کا نام ہے (۱۲۱) جو یافث بن نوح

کی نسل سے ہیں (۱۲۲) ذوالقرنین نے لوگوں کو ان کے فساد

اور لوٹ مار سے محفوظ رکھنے کے لئے، دو پہاڑوں کے درمیان

سیسہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر کے، ان کا راستہ بند کر دیا تھا،

اس دیوار کی وجہ سے لوگوں کو ان کے فساد اور لوٹ مار سے محفوظ

(۱۶۰) قال تعالیٰ: "حیٰ اذا فوجت یا حوج و ما حوج و هم من کل حدیب یسئلون"

(الانبیاء: ۹۶)

عن ابیہما عن سعید بن جبیر قال: "قیما ہم کلیلک إذ أوحى الله غیسی علیہ

السلام انی قد أخرجت عبادی لى لا یدان لأحد یقاتلهم فحزرت عبادی لى الطور و بیعت

الله یا حوج و ما حوج و هم من کل حدیب یسئلون" الحدیث (مسلم: ۲۹۳۷/أبو

داؤد: ۴۳۲۱/ترمذی: ۲۲۴۵/ابن ماجہ: ۴۹۷۵/أحمد: ۱۸۱:۴)

(۱۶۱) قال تعالیٰ: "قالوا یاذا القرنین ان یا حوج و ما حوج مفسدون فی الأرض فهل

نجعل لک خرجا علی أن تجعل بیننا و بینهم سدا" (الکہف: ۹۴)

(۱۶۲) قال ابن کثیر (یا حوج و ما حوج) "قد قدمنا انهم من سلالة آدم علیہ السلام

بل هم من نسل نوح أيضا من اولاد یافث الخ" (تفسیر ابن کثیر: ۱۰۴:۳)

کہ یہ کافر ہے (۱۵۹)

اس کے بعد لوگ روئے زمین پر امن و امان اور چین و سکون سے

رہنے لگیں گے اور امام ممدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے

گی۔

(۳) یاجوج ماجوج: ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ

کی طرف سے حکم ہو گا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں،

چنانچہ آپ ایسا ہی کریں گے، جس کے بعد یاجوج ماجوج کی دیوار

ٹوٹ جائے گی، اور وہ اپنے ٹھکانے سے نکل کر زمین میں تباہی

مچادیں گے، جس پانی پر سے گذریں گے اسے پی کر ختم کر دیں

(۱۵۹) عن ابی امامة الباعلی عن النبی ﷺ: (فی حدیث طویل) "فإذا انصرف قال

عیسیٰ علیہ السلام افتحوا الباب فینفتح وراءہ دجال و معہ سبعون ألف یهودی کلهم

ذو سیف محلی و ساج فإذا نظر إلیہ الدجال ذاب کما یدوب الملح فی الماء و یطلق

هارباً و یقول عیسیٰ: ان لی فیک ضربة لن تسفی بها فیدرکہ عند باب اللد الشرقی

فیقتله فبہزم الله الیہود فلا یقی شیء مما خلق الله بنواری بہ یهودی إلا انطق الله ذلک

الشیء" الحدیث (أبو داؤد: ۴۳۲۱/ابن ماجہ: ۴۰۷۷)

مل گیا تھا (۱۶۳)

یہ مضبوط دیوار اب تک قائم ہے، قیامت کے قریب یہ دیوار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی (۱۶۳)

غرض یہ قوم دیوار ٹوٹنے کے بعد زمین کے چپے چپے پر پھیل جائے گی اور سخت تباہی و بربادی پھیلانے لگی، آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جوج ماجوج کے لئے بد دعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک بیماری میں مبتلا فرما کر ہلاک فرمادیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور

(۱۶۳) قال تعالیٰ: "آتونی زبر الحديد حتى إذا ساوتی بین الصدفتین قال انفجوا حتى إذا جعله نارا قال آتونی أفرغ علیه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه و ما استطاع له نقبا (الکہف: ۹۶، ۹۷)

(۱۶۴) عن أبی هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "إن يأجوج و ماجوج ز ما جرح ليهفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فاستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم و أراد الله أن يعنهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فاستحفرونه غدا إن شاء الله فيستثنى فيعودون إليه و هو كهفته حين تركوه فيحفرونه و يخرجون على الناس فينشقون المياه" الخ (تفسير ابن كثير، ۳: ۱۰۴، ۱۰۵)

مسلمان زمین پر اتر آئیں گے، مگر زمین یا جوج ماجوج کی لاشوں سے اتنی بڑی ہوگی، پس اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے، پھینک دیں گے، پھر بارش ہوگی جس سے زمین بالکل صاف و شفاف ہو جائے گی (۱۶۵)

اس کے بعد روئے زمین پر خیر ہی خیر ہوگی، دشمنی چوری چکاری اور دیگر تمام منکرات مٹ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس بے انتہا مال و دولت آجائے گا، زہریلے جانوروں کا زہر نکال لیا جائے گا، سچے سانپوں سے کھیلیں گے،

درندے بھی بے ضرر ہو جائیں گے، ایک اتار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے گی، عرض اس دور میں زندگی بڑی

(۱۶۵) قال ابن كثير: "...فيدعو عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فيقول: اللهم لا طاقة لنا و بدلنا بهم ... فسلط الله عليهم دوداً يقال له النعلف فيفترس رقابهم و يبعث الله عليهم طيراً تأخذهم بسناقرها فتلقينهم في البحر و يبعث الله عيناً يقال لها الحياة يطهر الله الأرض و ينشأ حتى أن الرمانة ليسبح منها السكن. قيل: و ما السكن با كعب؟ قال: أهل البيت" (صحيح الأحناف ابن كثير، ۳: ۱۹۶، ۱۹۷)

(۲) سورج کا مغرب سے نکلنا: سو میں ذی الحجہ کے بعد ایک رات نہایت لمبی ہوگی، یہاں تک کہ بچے سو سو کر تھک جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانور شور مچانے لگیں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ جب رات تین یا چار راتوں کے برابر ہو چکے گی تو سورج مغرب کی جانب سے تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نکلے گا اور اتنا بلند ہو کر کہ جتنا دوپہر سے پہلے ہوتا ہے، دوبارہ مغرب میں جا کر ڈوب جائے گا، اس کے بعد عام عادت کے مطابق مشرق سے طلوع ہوا کرے گا۔

مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کافر کفر سے اور گناہگار گناہوں سے توبہ کریں

فيا حادّ المؤمن كهيئة الزكام و يدخل في مسامع الكافر و المنافق حتى يكون كالرأس الحديد (أبي كوالس المشوي على الحمير) (تفسیر ابن جریر، ۱۱۳:۱۱۳) و روی الطبرانی عن حذيفة: "... إن من أشرط الساعة دخاناً يملئ ما بين المشرق و المغرب يمشك في الأرض أربعون يوماً" (الإفاعة لما كان و ما يمشك بين يدي الساعة، ص ۱۷)

خوش گوار ہوگی، اور خیر و برکت کا یہ زمانہ سات سات سال تک رہے گا (۱۶۶)

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دفن کر دیں گے (۱۰۰)

(۵) ذکر دخان: ایک دن آسمان پر ایک خاص دھواں چھا جائے گا، اور پھر زمین پر برسے گا، اس سے مؤمنین کو تو زکام سا محسوس ہوگا مگر کافروں کے سر ایسے ہو جائیں گے جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا ہو، یہ دھواں چالیس روز تک رہے گا، جب یہ دھواں چھٹے گا تو بقر عید کے دن قریب ہوں گے۔ (۱۶۸)

(۱۶۶) كما رواد مسلم عن النّو اس بن سمعان في حديث طويل المذكور آنفاً و كما رواد أبو داؤد عن أبي أمامة الباهلي في حديث طويل (أبو داؤد: ۵: ۴۳۲۲) ابن ماجه: ۴۰۷۷)

(۱۶۷) عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ قال: ليس بيني وبينه نبي بعثي عيسى (إلى قوله) فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون (أبو داؤد: ۴۳۲۵) (الحمير، ۲: ۴۳۷)

(۱۶۸) قال تعالى: "فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين" (دخان: ۱۰) و روی ابن جریر فی تفسیر هذه الآية: "قال الصحابي الحليل عبدالله بن عمر: يخرج الدخان

گے مگر وہ توبہ معتبر نہ ہوگی۔ (۱۶۶)

(۷) دَابَّةُ الْأَرْضِ: اس کے بعد مکہ معظمہ میں صفا پہاڑی زلزلے سے پھٹ جائے گی اور اس میں سے ایک عجیب و غریب شکل کا جانور نکلے گا، جس کا سر بیل کی طرح، آنکھیں خنزیر کی طرح، کان ہاتھی کی طرح، گردن شتر مرغ کی طرح، سینہ شیر کی طرح، جسمانی رنگ چیتے کی طرح، پچھاڑی مٹی کی طرح اور دم مینڈھے کی طرح ہوگی،

(۱۶۶) قال تعالى: "يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا" (الأنعام: ۱۵۸) و عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقوم الساعة حتى تقتل فتان عظيمتان (إلى قوله) و حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت و رآها الناس آمنوا جميعا فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها" الخ (البخاری: ۷۱۲۱/مسلم، ۳۹۰:۲/أحمد، ۳/۹۵:۳/الدر المنثور، ۵۱:۶) و قال في الإشاعة: "روى ابن مردويه عن حذيفة" قال: "سألت رسول الله ﷺ ما آية طلوع الشمس من مغربها، قال: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين" (و روى هو و ابن أبي حاتم عن ابن عباس: "أنه ﷺ قال: آية تلك الليلة أن تطول قدر ثلاث ليال و في رواية البيهقي عن عبد الله بن عمرو بلفظ قدر ليلتين أو ثلاث" الخ (بحوال الإشاعة للبرزنجي، ص ۱۶۶)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا (لاٹھی) اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی، وہ ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائے گا، یہ عجیب جانور ساری دنیا میں گھومے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کو دیکھ کر کافر بھی ایمان لائیں گے مگر ان کا یہ ایمان بے فائدہ ہوگا (۱۷۰)

(۸) یسین کی آگ: پھر ایک آگ یسین سے نکلے گی جو لوگوں کو

(۱۷۰) قال تعالى: "أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون" (النحل: ۸۶) و قال ابن جرير عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: "رأسها رأس ثور و عينها عين خنزير و أذنها أذن فيل و قرنها قرن أبل و عنقها عنق نعامة و صدرها صدر أسد و لونها لون نمر و خاصرتها خاصرة هر و ذنبها ذنب كبش و قوائمها قوائم بعير بين كل منفصلين اثنا عشر ذراعاً تخرج معها عصا موسى عليه السلام و خاتم سليمان عليه السلام فلا يبقى مؤمن إلا نكت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء فنفسو تلك النكتة حتى يبيض بها وجهه و لا يبقى كافر إلا نكت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فنفسو تلك النكتة حتى يسود بها وجهه حتى أن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن بكم ذا يا كافر" (ابن كثير، ۳: ۳۷۶)

حشر (ملک شام) کی طرف ہانک کر لے جائے گی، قرآن کریم لوگوں کے سینوں اور مصاحف سے اٹھالیا جائے گا (۱۷۱)۔

(۹) **مومنین کی موت:** کچھ عرصہ بعد ایک نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی، جو تمام مومنین کی روح قبض کر لے گی، اور کوئی مومن دنیا میں باقی نہ رہے گا، دنیا میں صرف کفار اور بدکاروں کا عمل ہو جائے گا، حکومت پر جوشہ کے کافر مسلط ہوں گے، جو خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے، تین چار سال اسی حالت میں گذریں گے کہ اچانک جمعہ کے دن، دس محرم الحرام کو حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے اور بدترین لوگوں پر قیامت آجائے گی (۱۷۲)۔

(۱۷۱) عن حذیفة بن أسید الغفاری قال: "اطلع علينا النبي ﷺ ونحن نتذاكر" --- إلى قوله --- "وآخر ذلك نار تخرج من بطن نطرد الناس إلى محشرهم" الخ الحديث (مسلم بشرح آبی: ۲۹۰۱)

(۱۷۲) عن الثوراس بن سمعان في حديث طويل --- فيبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم من تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهاجرون فيها تهارج الحمير فعليهم تقوم الساعة (مسلم: ۲۱۳۷/ ابن ماجه: ۴۰۷۵/ ترمذی: ۲۲۴۵)

حشر و نشر

سوال: حشر نشر یا عالم آخرت کیا ہے؟

جواب: پہلی دفعہ صور پھونکنے سے تمام عالم نیست و نابود ہو جائے گا، حتیٰ کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آجائے گی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، پھر دوسری بار صور پھونکا جائے گا، تمام عالم دوبارہ زندہ ہو جائے گا، مردے قبروں میں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور سب جمع ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے، یہی دوبارہ زندگی حشر و نشر یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے (۱۷۳)۔

سوال: عالم آخرت اور میدان حشر کے کچھ حالات بیان کریں!

جواب: دوسری بار صور پھونکنے پر جب تمام عالم پیدا ہو جائے گا اور

(۱۷۳) قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة (الحاقة: ۱۳، ۱۴) و قال تعالى: "و نفخ في الصور فصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون" (الزمر: ۶۷) و قال تعالى: "ثم إنكم يوم القيمة تبعثون" (المؤمنون: ۱۶) و قال تعالى: "و يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" (الرحمن: ۲۷)

ناموں کا وزن ہوگا، اور اعمال ناموں کے وزن کے لئے
 ”میزانِ عدل“، یعنی انصاف کا ترازو نصب ہوگا، جس
 کے داہنے پلڑے میں نیک اعمال اور بائیں پلڑے میں
 اعمالِ بد رکھے جائیں گے (۱۷۸) جن کی نیکیوں کا پلڑا
 بھاری ہوگا ان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا
 اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کا نامہ اعمال ان
 کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، نیوکار خوشی کے مارے
 سب کو اپنا نامہ اعمال دکھاتے ہوں گے، جبکہ بدکار
 حسرت و افسوس کرتا پھرے گا، (۱۷۹) پھر سب کو پیل صراط
 سے گذرنا ہوگا۔

(۱۷۸) قال تعالیٰ: “و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و إن كان
 منتقال حبة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسين“ (الأنبياء: ۴۷)
 (۱۷۹) قال تعالیٰ: “فأما من أوتى كتابه يمينه فيقول هاؤم قرؤا كتابه إني ظننت أني
 ملاق حسابه فهو في عيشة راضية و أما من أوتى كتابه بشماله فيقول باليتني لم أوت
 كتابه و لم أدر ما حسابيه باليتها كانت القاضية“ (الحاق: ۲۵، ۲۶، ۲۷)

مردے زندہ ہو جائیں گے (۱۷۴) تو سورج سوانیزے پر آجائے
 گا، اور لوگ اپنے اعمال کی نسبت سے پسینے میں ڈوبے ہوں
 گے، بعض ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض
 گھٹنوں تک، بعض ناف تک اور بعض کو پسینے نے منہ تک ڈبو
 رکھا ہوگا (۱۷۵) اس دن لوگ نشہ کے بغیر مدہوش ہوں گے
 (۱۷۶)

تمام انسان حساب و کتاب کے لئے میدانِ قیامت میں جمع
 ہوں گے، ہمارے پیارے نبی ﷺ کی سفارش پر حساب
 کتاب شروع ہوگا، (۱۷۷) حساب و کتاب سب کا ہوگا، اعمال

(۱۷۴) قال تعالیٰ: “ثم نفع فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون“ (الزمر: ۶۸)
 (۱۷۵) عن المقداد قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: “تدنى الشمس يوم القيامة من
 الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم
 من يكون إلى كعبه“ الحديث (رواه مسلم: ۲۸۶۴)
 (۱۷۶) قال تعالیٰ: “و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى“ الآية (الحج: ۲)
 (۱۷۷) كما رواه أنس بن مالك في حديث الشفاعة مسلم، ۲/۲۴۵
 ابن ماجه: ۴۳۰۷=۴۳۱۷

بھی سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے (۱۸۳)

☆☆☆

(۱۸۳) و قوله (ثم نحى الذين اتقوا) أى إذا مر الخلاق كلهم على النار و سقط فيها من سقط من الكفار و العصاة ذو المعاصى بحسبهم نحى الله تعالى المؤمنين المتقين بحسب أعمالهم أى كانت فى الدنيا ثم يشفعون فى أصحاب الكبار من المؤمنين فيشفع الملائكة و النبيون و المؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات و حوهم و هى مواضع السجود (إلى قوله) حتى يخرجون من كان فى قلبه أدنى أدنى من مقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله و إن لم يعمل خيرا قط و لا يقى فى النار إلا من و جب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ و لهذا قال تعالى: "ثم نحى الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا" (تفسير ابن كثير، ۱۳۳، ۱۳۴: ۳)

پہل صراط:

سوال: پہل صراط کیا ہے؟

جواب: یہ ایک پہل ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلووار سے زیادہ تیز ہے، (۱۸۰) اور جہنم کے اوپر بندھا ہے، سب کو اس پر سے گزرنے کا حکم ہوگا (۱۸۱)، نیک لوگ اس کو سلامتی کے ساتھ عبور کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور بدکار و کفار اس پر اس پر سے کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے (۱۸۲)

سوال: کیا گناہگار مسلمان بھی جہنم میں جائے گا؟

جواب: جی ہاں! وہ مسلمان جس نے دنیا میں گناہ کئے اور سچی توبہ نہ کی تو قانون خداوندی کے مطابق وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر اور پاک و صاف ہو کر بالآخر جنت میں جائیں گے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمادیں تو یہ

(۱۸۰) قال فى جمع الفوائد: "وفى رواية قال أبو سعيد: بلغنى أن الحسر أدق من الشعر و أحد من السيف (للشيعين و النسائى)" (جمع الفوائد، ۳۳/۱۰۰۰۲، ۳۳۸-۳۳۹)
(۱۸۱) قال تعالى: "وإن منكم إلا واردة" كان على ربك حتما مقضيا" (مریم: ۷)
(۱۸۲) قال تعالى: "ثم نحى الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا" (مریم: ۷۲)

تقدیر پر ایمان

سوال: تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: کائنات کی ہر چیز کی پیدائش و موت، اس کے اچھے برے

اعمال اور ان کا انجام، غرض جو کچھ بھی عالم میں برابھلا ہوتا

ہے، سب کو اللہ تعالیٰ، اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے

ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ایک

جگہ لکھ دیا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے، اس کے خلاف کوئی پتہ

بھی حرکت نہیں کرتا ورنہ (العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ کے علم کا

غلط ہونا لازم آئے گا، جو محال اور ناممکن ہے (۱۸۳)

تقدیر پر ایمان لانا بھی مومن ہونے کے لئے ضروری ہے،

کوئی شخص تقدیر پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا (۱۸۵)

(۱۸۴) قال تعالیٰ: "إنا كل شيء خلقناه بقدر" (القمر: ۴۹) و قال تعالیٰ: "و كل شيء

عنده بمقدر" (الرعد: ۸) و عن رسول الله ﷺ يقول: "إن أول ما خلق الله القلم، فقال

له: اكتب فحری بما هو کائن إلى الأبد" (الترمذی: ۳۳۳۱)

(۱۸۵) کما فی حدیث جریر بن العلاء

اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث

و مباحثہ کرنے سے امت کو منع فرمایا ہے، اس لئے اس کے

بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرنا چاہئے (۱۸۲)

تم الجزء الأول من تعلیم العقائد بتوفیق اللہ تعالیٰ وعونه و بلیه الجزء الثاني، المحتوی

على مقارنة الفرق الإسلامية والنقد عليهم وعلى معرفة الفرقة

الناجیة، على الله التوكل ومنه القبول

أبو امامة طاهر محمود

ﷺ

(۱۸۶) عن أبي هريرة قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتنازع في القدر

فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقمي من وجته الرمان فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا

أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم

عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه" (ترمذی: ۳۸۲۱)

التماس دعا

اس کتاب سے مستفید ہونے والے حضرات سے التماس ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل
حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی ساحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ
اور جناب شاہ محمد مسعود صاحب مرحوم و عزیز واقارب
کل مومنین و مومنات کی مغفرت نامہ درجات کی بلندی
اور جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب
داخلے کی خصوصی دعا فرمائیں۔

شاہ طارق ایسوسی ایٹس

ریٹیل اسٹیٹ ایڈوائزر

11-سی / ۳، ساؤتھ پارک ایونیو فیر 11

ایکسٹیشن ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی

فون : 5880185 & 5883645 & 6

7770208 - 2629190

ناشر
عالمی پبلسنگز